

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل کی یمن کی طرف روانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات

محمد و قاص ®

The Departure of Hadhrat Ma'ad to Yamen and Instructions by Prophet (peace be on him)

Muhammad Waqas ®

Abstract: The Prophet (peace be upon him) appointed different governors from his companions in different areas as well as gave different instructions for governing and running the state. The most famous among these instructions is that were given to Hazrat Ma'ad ibn Jabal (RA). But these are scattered in different books of Hadith. In this paper these instructions are compiled. And also discussed that how many times Hazrat Ma'ad went to Yemen, it is well-known that once. But in this paper has proven that the departure of Hazrat Ma'ad has happened twice but even more.

Keywords: Sirah, Prophet, Ma'az, journey, Yemen, guidelines

Summary of the Article

During the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him), the formation of the state of Medina continued to expand and take on various forms under the Prophet's leadership and the leadership of the Rashidun caliphs. For example, some regions became part of the state through treaties, while others accepted Islam and recognized the Prophet as a messenger and ruler. In some areas, people accepted the Prophet's authority without converting to Islam. During the time of the Rashidun caliphs, many newly-conquered territories became part of the state.

The earliest form of expansion of the Prophet's state was the Treaty of Medina, through which the people of central Yathrib and its suburbs joined the state. However, due to the geographical distance, the Prophet directly exercised his authority only over the central Yathrib area. When long-distance areas became part of the state, the Prophet sent his representatives to these areas, who were referred to as "amils" (governors), "walis," and so on, and gave them instructions to follow.

These instructions provided guidance on the principles of Islamic governance and how to deal with the people of the newly-conquered territories. During his

یکچھ ار، امام و خطیب، مدرس، جامع مسجد زینب، قمر گارڈن، مانا والہ، فیصل آباد، نزد یونیورسٹی آف فیصل آباد کینال روڈ۔

◎ Khateeb Jamia Masjid Qamar Garden, Faisalabad. (hafiz.waqas107@gmail.com)

lifetime, the Prophet sent various companions to different regions as envoys and governors to provide guidance and instructions. For example, Hazrat Ali was sent to Najran, Hazrat Uthman ibn Affan to Ta'if, Khalid bin Sa'id to Sana'a, Muhajir bin Umayyah to Kenda, and Sadaf and Ziyad bin Labid Ansari to Hadhramaut.

Hazrat Muadh bin Jabal was one of the important companions who was sent as a governor to the region of Yemen. He was given instructions by the Prophet to implement the principles of Islamic governance and to provide guidance and advice to the people. These instructions were based on the principles of justice, equality, and fairness, and aimed to establish a just and prosperous society.

Thus, the expansion of the state of Medina during the time of the Prophet Muhammad and the Rashidun caliphs was not merely a territorial expansion, but also an expansion of the principles of Islamic governance and the establishment of just and equitable societies. The Prophet and his companions sent representatives to newly-conquered territories to provide guidance and instructions on how to implement the principles of Islamic governance, which would benefit the people and ensure the prosperity and welfare of the society.

During the lifetime of Prophet Muhammad (peace be upon him), he gave advice and instructions to his companions on various occasions, including before they embarked on journeys. Some of these instructions were related to administrative matters, while others were related to religious practices and obligations. Most of the advice was related to cultivating piety and righteousness. It is known that the companion Mu'adh bin Jabal was instructed twice by the Prophet (peace be upon him) before he went to Yemen. However, the specific details of what advice was given during the two occasions are not conclusive.

Based on various indications, it is suggested that during the first occasion, the Prophet (peace be upon him) gave advice that included using the expression of praise in statements. This is because during the first journey, Abu Musa al-Ash'ari was also accompanying the Prophet (peace be upon him), while during the second journey, Mu'adh bin Jabal went alone to Yemen. Additionally, it is believed that during the first occasion, the Prophet (peace be upon him) also gave instructions related to zakat and other financial matters.

Furthermore, it is suggested that the advice that included the term "will" or referred to the permanent separation of individuals, was given during the first occasion. Additionally, instructions that used the singular form were also given during the first journey.

Lastly, it is suggested that the advice related to cultivating piety and righteousness, known as "Riqaq," was given during the second occasion. These pieces of advice were likely general and applicable to all who were present at the time.

In conclusion, while the exact details of the advice given during the two journeys are not definitive, indications suggest that the advice given during the first journey included using expressions of praise, financial matters, and instructions related to separation. The advice given during the second journey was likely related to cultivating piety and righteousness.

When including relevant hadiths, advice, and rulings, it provides an estimate of the scholarly, practical, and jurisprudential status of Hazrat Mu'adh (may Allah be pleased with him), and it also reveals the principles that must be considered for a person's appointment in any country, region, or department. Moreover, it also becomes apparent what responsibilities a person has once appointed, for instance, how their behavior should be with their subordinates, what educational and moral training is necessary, how to use the public treasury, or in other words, funds that belong to all members of a state or department, and how to collect the mandatory obligations from the public.



رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں جس ریاست کی تشكیل کی اس کی توسعی خود عہد رسالت اور عہد خلفاء راشدین میں مختلف شکلوں میں ہوتی رہی۔ مثلاً بعض علاقے معاهدات کی صورت میں اس ریاست کا حصہ بنے، بعض علاقوں نے اسلام قبول کر کے رسول اللہ ﷺ کو بطور رسول تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ بطور حاکم اعلیٰ بھی تسلیم کی، بعض علاقوں نے اسلام قبول کیے بغیر آپ کی ماتحتی قبول کی، خلفاء راشدین کے دور میں بے شمار مفتوحہ علاقے اس ریاست کا حصہ بنے۔ آپ کی ریاست کی توسعی کی سب پہلی شکل تو میثاقِ مدینہ کی صورت میں سامنے آئی، جس کے ذریعے مرکزی یہرب کے علاوہ مضائقات کے لوگوں نے بھی اس ریاست کے ساتھ اپنا الحاق کیا۔ لیکن مکانی اتصال کی وجہ سے یہاں رسول اللہ ﷺ بر اہ راست اپنے اختیارات استعمال فرمائے تھے۔ جو دور دراز کے علاقے اس ریاست کے ساتھ ملتی ہوتے تھے وہاں رسول اللہ ﷺ اپنا نامہ ارسال فرماتے جسے عامل، والی وغیرہ کے الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا۔ عہد رسالت اور عہد خلفاء راشدین میں یہ بھی روایت رہی ہے کہ ان عالمین (گورنر) کو روانہ کرتے ہوئے ہدایات دی جاتی تھیں۔ ان ہدایات سے اسلام کے اصول حکمرانی اور ماتحتوں کے ساتھ سلوک کے طریقے سمجھ میں آتے ہیں۔

آپ ﷺ نے اپنی زندگی کے اندر مختلف علاقوں کی طرف مختلف صحابہ کو بطور سفیر اور گورنر بنائے جیسا اور ہر ایک کو نصائح اور تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نجران، عثمان بن ابی العاص کو طائف، خالد بن سعید کو صنعاء، مہاجر بن امیہ کو کنده اور صدف اور زیاد بن لبید انصاری (رضی اللہ عنہم) کو حضرموت کی طرف بطور گورنر بنائے جیسا۔^(۱) اسی سنہری سلسلے کی ایک کڑی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ جنہیں آپ ﷺ نے یمن کے ایک

- ۱ - ابو عمر خلیفہ بن خیاط، تاریخ خلیفہ بن خیاط (بیروت، مؤسسة الرسالۃ، ۱۳۹۷ھ)، ۹؛ ابو العباس احمد بن علی

المقریزی، امتاع الاسماع بہا للنبی من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع (بیروت، دار الكتب العلمية،

علاقے جند کی طرف عامل اور گورنر کے طور پر روانہ فرمایا تھا۔^(۲) ان کی روائی اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کی حاصل ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں روانہ کرتے وقت بہت تفصیلی ہدایات اور نصائح سے نوازا تھا۔ لیکن وہ نصائح کتب احادیث و سیرت وغیرہ کے اندر بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان سے افادہ اور استفادہ مشکل ہے۔ جس طرح جنت الوداع کے موقع پر آں حضرت ﷺ کے ارشادات حدیث و سیرت کی کتابوں میں متفرق طور پر موجود ہیں موجودہ دور میں بعض حضرات نے انہیں ایک جگہ جمع کیا ہے اسی طرح یہاں بھی ضرورت ہے کہ اس بکھرے ہوئے مواد کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر ان تمام نصائح کو یہاں ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاکہ ان سے استفادہ کرنا آسان ہو اور ہمیں پتا چلے کہ گذگور ننس کے اصول کیا ہیں۔ اس مقالے کے اندر مندرجہ ذیل باتوں سے بحث کی جائے گی:

- ۱) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا محقر تعارف، ان کا قبول اسلام اور ان کی وفات کا ذکر،
- ۲) سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے کچھ مناقب،
- ۳) ان کی یمن کی طرف روائی کب ہوئی اور کتنی بار ہوئی،
- ۴) یمن کی طرف روائی کا مقصد اور ان کی وہاں پر سرگرمیاں،
- ۵) آپ ﷺ کے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصائح، اور احکام،

۱۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا تعارف

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا پورا نام و نسب اس طرح سے ہے۔ معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائز بن عدی بن کعب بن عمرو بن آدی بن سعد بن علی بن اسد بن ساردة بن تزید بن جشم بن الخزرج، اس طرح سے دھیاں کی طرف سے حضرت معاذ کا تعلق انصار کے مشہور خاندان خزرج سے ہے۔ حضرت معاذ کی والدہ کا نام ہند بنت سہل ہے^(۳) اور یہ قبیلہ جہینہ سے ہیں۔ بنو سلمہ والے ان کے نسب کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ

۲۔ المقربی، امتاع الاسماء، ۲: ۲۱۰۔

۳۔ ابوالفضل احمد بن علی العسقلانی، الاصابه فی تمییز الصحابة (بیروت: دار الكتب العلمیہ، ۱۴۱۵ھ) ۷: ۱۰؛ ابن الاشیر ابوالحسن علی بن ابی الکرم الجزری، اسد الغابہ فی معرفة الصحابة (بیروت: دار الكتب العلمیہ، ۱۹۹۳ء)، ۵: ۷۸؛ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الدہبی، تذكرة الحفاظ (بیروت: دار الكتب العلمیہ، ۱۹۹۸ء)، ۱: ۱۹.

حضرت معاذ سہل بن جد بن قیس کے ماں شریک بھائی تھے۔ یعنی حضرت معاذ کی والدہ نے حضرت معاذ کے والد کے انتقال کے بعد جد بن قیس سے نکاح کر لیا تھا اور یہ بوسلمہ سے تھے۔^(۳)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اٹھارہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر سمیت تمام غروات کے اندر شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ۱۸ھ میں ۳۸ سال کی عمر میں طاعون عمواس میں شام کے علاقے میں وفات پائی۔^(۴) رضی

اللہ عنہ وارضاہ

۲۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے کچھ مناقب

- ویسے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے مناقب کافی زیادہ ہیں لیکن ان میں سے چند یہاں ذکر کیے جاتے ہیں:
- ۱۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میری امت میں سے سب زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔“^(۵)
 - ۲۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آصلی عینہ نے ان کا ہاتھ کپڑ کر فرمایا: ”اے معاذ بے شک میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں تو حضرت معاذ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔“^(۶)

۱۔ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبهانی، معرفة الصحابة لابی نعیم (ریاض: دار الوطن للنشر، ۱۹۹۸ء)، ۵: ۲۲۳۲

ابوالقاسم الطبرانی سلیمان بن احمد، المعجم الكبير (قاهرہ: دار النشر مکتبہ ابن تیمیہ، ۱۹۹۳ء)، ۲۰: ۲۸

۲۔ ابو بکر ابن ابی عاصم الشیبانی، الاحاد والثانی لابی عاصم (ریاض: دار الرایہ، ۱۹۹۱ء)، ۳: ۳۱۵، رقم: ۱۸۲۵۔

۳۔ ابو حاتم محمد ابن حبان، صحیح ابن حبان، ذکر البیان بان معاذ بن جبل کان من اعلم الصحابة بالحلال والحرام (بیروت: مؤسسه الرسالۃ، ۱۹۹۸ء)، رقم: ۷۲؛ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، سنن الترمذی، باب مناقب معاذ و زید بن ثابت وابی بن کعب وابی عبیدہ رضی اللہ عنہم (مصر: شرکہ مکتبہ ومطبعہ مصطفیٰ البابی الحلبي، ۱۹۷۵ء)، رقم: ۳۷۹۰۔

۴۔ ابو عبد اللہ احمد بن حنبل، مستند احمد، تتمہ مسند الانصار، حدیث معاذین جبل (بیروت: مؤسسة الرسالۃ، ۲۰۰۱ء)، رقم: ۲۲۱۹؛ ابو داؤد سلیمان بن اشعش، سنن ابی داؤد، باب فی الاستغفار (بیروت: المکتبۃ العصریۃ)، رقم: ۱۵۲۲۔

- ۳۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک معاذ قیامت والے دن تمام علماء سے ایک قدم آگے ہوں گے یا یہ کے تمام علماء کے قائد ہوں گے۔“^(۸)
- ۴۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ”امۃ قانتا“ تھے۔ ہم اصحاب نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ معاذ کو حضرت ابراہیم عَلَیْہِ اَللّٰہُ تَعَالٰی کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ”امۃ“ کا معنی کیا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی تعلیم دے۔ اور ”قانتا“ کا معنی وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔^(۹)

۳۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یمن کی طرف روانگی کب اور کتنی بار ہوئی؟

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یمن کی طرف روانگی کب ہوئی؟ کسی تاریخ کا تعین کرنے سے پہلے اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت معاذ کی یمن کی طرف روانگی کتنی بار ہوئی؟ اس میں اختلاف ہے۔ علماء کی ایک قابل ذکر تعداد کے نزدیک جن میں علامہ سندی، حافظ ابن حجر اور علامہ محمد یوسف بنوری وغیرہ حضرات بھی شامل ہیں ان کی یمن کی طرف روانگی ایک بار ہوئی۔ ان حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کی طرف روانگی کے بعد دوبارہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کی زندگی کے اندر واپس نہیں آئے تھے۔^(۱۰)

جب کہ دوسرے بعض حضرات جن میں امام بیہقی عَسْکَلَی کے شیخ امام ابو عبد اللہ الحاکم یا ابو اسحاق اسفاری بھی شامل ہیں ان کے نزدیک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یمن کی طرف روانگی دو مرتبہ ہوئی۔^(۱۱) ایک دفعہ

-۸۔ ابوکبر ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، فضائل معاذ[ؐ] (ریاض: مکتبہ الرشد، ۱۴۰۹ھ)، رقم: ۳۲۲۹۳؛ ابوعبد اللہ احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، باب فضائل ابی عبیدہ بن الجراح (بیروت: مؤسسه الرسالۃ، ۱۹۸۳ء)، رقم: ۱۲۸۲۔

-۹۔ الاصبهانی، معرفة الصحابة لابی نعیم، باب المیم، من اسمه معاذ، رقم: ۵۹۵۵؛ الطبرانی، المعجم الكبير، بقیة المیم من اسمه معاذ، رقم: ۹۹۳۳؛ ابن الجعیف ابو عبد اللہ الحاکم محمد بن عبد اللہ، المستدرک علی الصحيحین، كتاب التفسیر، تفسیر سورۃ النحل (بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۹۹۰ء)، رقم: ۳۳۶۷۔

-۱۰۔ احمد بن حنبل، مسنداًحدط الرسالۃ، رقم: ۲۱۹۸۶؛ پر شیعیب ارنوط کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔

-۱۱۔ ابوکبر البیہقی احمد بن الحسین، السنن الكبير للبیہقی، كتاب آداب القاضی (بیروت: دارالکتب العلمیة، ۲۰۰۳ء)، رقم: ۲۰۱۵۱۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اکیلے، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یمن سے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی حیات طیبہ کے اندر واپس نہ آتا یہ دوسری مرتبہ روانگی کے بعد ہے نہ کہ پہلی مرتبہ، ان حضرات کے پاس کافی دلائل اور شواہد ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

دلیل نمبر ۱

مند امام احمد بن حنبل میں ہے:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي طَبَيَّانَ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْيَمَنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ رِجَالًا بِالْيَمَنِ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِيِّ، أَفَلَا سَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ أَمِرَّاً بَشَرًا يَسْجُدُ لِيَسْتَرِّ، لَا مَرْأَةٌ مُرْأَةٌ أَنْ تَسْسْجُدَ لِزَوْجِهَا."^(۱۲)

(حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ یمن سے واپس آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ! میں نے یمن میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟ قرآن اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے جواب دیا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو یہوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔)

اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت معاذ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی زندگی کے اندر یمن سے واپس آئے تھے۔ لازمی طور پر یہ پہلی دفعہ روانگی کے بعد ہو گا کیوں کہ دوسری دفعہ کے بعد تو یمن سے واپس نہ آنا ثابت ہے۔

حدیث کی سند پر کلام

یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے اور اس کے رجال ثقہ اور شیخین کے ہیں لیکن اس کی سند میں انقطاع ہے۔^(۱۳)

اس لیے کہ ابو ظبیان نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا اور اس کی دلیل مند احمد رضی کی روایت ہے جس میں ابو ظبیان کے بعد رجل من الانصار کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ظبیان کے بعد کوئی راوی چھوٹے ہوئے ہیں اور وہ حدیث یہ ہے: ”حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا طَبَيَّانَ، يَحْدُثُ عَنْ رَجُلٍ

-۱۲- احمد بن حنبل، مسنداً حمداً، رقم: ۲۱۹۸۶؛ ابن أبي اسامه ابو محمد الحارث بن محمد، مسنداً الحارث، باب فی حق الزوج

علی المرأة (مدينة منورة: مركز خدمة السنة والسيرۃ النبویة، ۱۹۹۲ء)، رقم: ۳۹۸۔

-۱۳- احمد بن حنبل، مسنداً حمدالرسالہ، رقم: ۲۱۹۸۶ پر شیعہ ارنوٹ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔

مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: أَفْبَلَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ
رِجَالًا، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ۔^(۱۲)

حدیث کے متن پر کلام:

علامہ سندی حبیل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو پھر ممکن ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دو مرتبہ یمن گئے ہوں۔ لیکن ان کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر واپس نہ آنا ثابت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے متن میں بعض راویوں سے تصرف ہوا ہے، کیوں کہ اسی حدیث کی بعض صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واپسی "شام" سے ہوئی تھی نہ کہ یمن سے اور علامہ سندی اس کی تائید ابن ماجہ کی اس حدیث سے کرتے ہیں

جو حضرت عبد اللہ ابن اوفی سے مروی ہے اور وہ حدیث یہ ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟» قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَاقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدَّدُتِ فِي تَفْسِيْرِ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِيلَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمْرُتُ الْمُرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

(حضرت عبد اللہ بن ابی اوپنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ "شام" سے واپس آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ یہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے امر اور روسا کو سجدہ کرتے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسا نہ کرو، اور اگر بالفرض میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کا کہتا بھی تو یہوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔)^(۱۵)

تو علامہ سندی فرماتے ہیں کہ بظاہر درست "شام" کا لفظ ہے۔ اور لفظ یمن شام کی جگہ کسی راوی کا تصرف

ہے۔^(۱۶)

-۱۳- احمد بن حنبل، مسنداً حديث الرساله، رقم: ۲۱۹۸۷۔

-۱۴- ابن ماجہ ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجہ، باب حق الزوج على المرأة (دار احياء الكتب العربية)، رقم: ۱۸۵۳۔

-۱۵- احمد بن حنبل، مسنداً حديث الرساله، رقم: ۲۱۹۸۶ پرشیب ارنوٹ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔

لیکن مند احمد کے محقق شعیب ارنوٹ نے اس حدیث پر کلام کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث جید ہے لیکن اس کی سند میں شدید اضطراب ہے۔ اس میں قاسم شیبانی کی وجہ سے اضطراب ہوا ہے طوالت کے سبب اس سارے اضطراب کو ذکر کرنا ممکن نہیں تفصیل کے لیے مند احمد حدیث نمبر (۱۹۲۰۳) پر شعیب ارنوٹ کا حاشیہ ملاحظہ فرمایا جاسکتا ہے۔^(۱۷)

دوسری بات یہ کہ حضرت ابن الی اوفی رضی اللہ عنہ ولی حدیث حضرت ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے بھی مردی ہے اور اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف بھیجا اور وہ وہاں سے واپس آئے اور سجدہ کیا اور آں حضرت علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ امام طبرانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرْوَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْفَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، وَهُوَ أَبُنْ عَوْفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا قَدِمْ مُعاذًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ كُنْتُ أَمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمْرَتُ الْمُرْأَةَ أَنْ يَسْجُدَ لِرَوْجِهَا.^(۱۸)

(حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو شام بھیجا اور وہ جب واپس آئے تو عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام میں نے ہال کتاب کو دیکھا کہ وہ اپنے علا اور اپنے امراء کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو دوسرا انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔)

اس حدیث کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کہ شام اور یمن والے دونوں الگ الگ واقعات ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ شام بھیجا ہو لیکن پھر وہاں سے یمن آگئے ہوں اور وہاں یہ واقعہ دیکھا ہو اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ واپس آئے ہوں۔ اس کے بر عکس نہیں کہا جا سکتا کہ بھیجا یمن ہو اور پھر وہاں سے شام اور پھر وہاں سے مدینہ

-۱۷- احمد بن حنبل، مند احمد ط الرسالہ، رقم: ۱۹۲۰۳۔

-۱۸- الطبرانی، المعجم الكبير، بقية الميم من اسمه معاذ، رقم: ۷۵؛ ابوکابر احمد بن عمرو البزار، مستند البزار المشور باسم البحر الدخار، مندرجات بن سرۃ (مدینۃ منورۃ: مکتبۃ العلوم والحكم، ۲۰۰۹ء)، رقم: ۳۳۱۸؛ نور الدین علی بن ابی بکر الہیشی، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب حق الزوج علی المرأة (قاهرہ: مکتبۃ القدسی)، رقم: ۲۵۱۔

منورہ تشریف لائے ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک حدیث میں بھی حضرت معاذؓ سے یہ ثابت نہیں کہ انھوں نے خود فرمایا ہو کہ میں شام سے واپس آیا۔ شام سے واپسی والی تمام احادیث حضرت ابن ابی اوفر رضی اللہ عنہ یا حضرت ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے مردی ہیں اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شام سے واپس آئے۔ جب کہ یمن سے واپسی والی تقریباً تمام احادیث خود حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مردی ہیں اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں یمن سے واپس آیا تو صاحبِ واقعہ کی بات کا زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے۔

اور دوسرایہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابن ابی او فی والی حدیث کی طرح حضرت زید ابن ارم قم رضی اللہ عنہ والی حدیث میں بھی شدید اضطراب ہے اور یہ اضطراب بھی قاسم شیانی کی وجہ سے ہوا ہے تفصیل کے لیے حضرت ابن ابی او فی رضی اللہ عنہ والی حدیث پر شعیب ارنوٹ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں^(۱۹) اور دوسرایہ بھی کہ حضرت ابن ارم قم رضی اللہ عنہ والی حدیث کی تمام سندوں میں صدقۃ بن عبد اللہ، راوی ہیں اور وہ مت روک الحدیث ہیں۔ ابو حاتم اور ایک جماعت نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے اور امام بخاری اور ایک جماعت نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔^(۲۰) لیکن اس ساری تفصیل کے باوجود یہ حدیث اور علامہ سندری نے ابن ماجہ کی جس حدیث ابن ابی او فی کا حوالہ دیا وہ بھی صحیح لغیرہ ہے^(۲۱) اور منذر احمد والی حدیث جس میں یمن کا لفظ آیا ہے وہ بھی صحیح لغیرہ تواب ہم ان دونوں میں سے کسی کو دوسری حدیث پر بغیر کسی دلیل کے ترجیح نہیں دے سکتے۔ اور علامہ سندری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کا یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یمن سے واپسی آپ مصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ثابت نہیں یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ جب کہ دوسرے حضرات کے پاس اس مذکورہ منذر احمد والی حدیث کے علاوہ بھی کچھ اور مضبوط شواہد موجود ہیں جن سے حضرت معاذ کی یمن سے واپسی آپ مصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ثابت ہوتی ہے جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

دليٰل نمبر ۲

-۱۹- احمد بن حنبل، مسنداً احمد، رقم: ۲۱۹۸۶ پر شعیب ارنوٹ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔

- ٢٠ - ابيشى، مجمع الزوائد و منع الفوائد، رقم: ٦٥١.

-۲۱- احمد بن حنبل...مسند احمد، رقم: ۱۹۳۰۳ سر شعع ارنوط کا خاشرہ ملاحظہ فرمائیں۔

^{٤٤}- محمد بن إسحاق البخاري، *الجامع الصحيح*، باب مالك ه من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من

اور دوسری روایت کو یوں ذکر کرتے ہیں: ”ابوردة حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یکن بھیجا اور ان کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔“ اس روایت کے اندر لفظ ”اتبعہ استعمال“ ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے پیچھے یا بعد میں بھیجننا۔ جیسے کہ حفیہ، مالکیہ، جنازے کے ساتھ چلنے والے مسئلہ میں کہ جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ہے اس بات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ حدیث میں لفظ ”اتبع الجناز“ استعمال ہوا ہے۔ جس کا مطلب ہے کسی کے پیچھے جانا۔ اس طرح سے ایک روایت بتارہی ہے کہ حضرت معاذ اور حضرت ابو موسی اشعری کو اکٹھے بھیجا گیا تھا جب کہ دوسری بتارہی ہے کہ حضرت معاذ کو ابو موسی اشعری کے بعد بھیجا تھا۔ دونوں روایتوں کو درست تسلیم کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنا ممکن ہے ہے کہ حضرت معاذ کو ایک سے زائد مرتبہ بھیجا گیا ہو۔

دلیل نمبر ۳

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یمن طرف روانگی والی حدیث کو یوں روایت کیا:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَحَدَّثَنِي حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ.

(۲۳)

(اس حدیث میں صراحت ہے کہ پہلے حضرت ابو موسی رض کو بھیجا اور ائکے بعد حضرت معاذ بن جبل رض کو روانہ فرمایا تھا۔ اور بخاری کی پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ دونوں کو اکٹھے بھیجا تھا تو زیادہ امکان یہ ہی ہے کہ حضرت معاذ رض کو دو دفعہ بھیجا ہو۔

(ک۔)

دلیل نمبر ۴

امام نبیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے:

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ يُوْصِيهِ بِوَصِيَّةٍ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ

عصی امامہ (دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ھ)، رقم: ۳۰۳۸۔

۲۳۔ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، سنن النسائی، باب الحکم فی المرتد (حلب: مکتبۃ المطبوعات الاسلامیة، ۱۹۸۶ء)، رقم: ۳۰۶۶۔

رَاحِلَتِهِ أَفَلَمْ فَرَغْ قَالَ: ”يَا مُعَاذُ أَنْتَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمْرَ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي.“

(آپ ﷺ نے حضرت معاذؓ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ ﷺ ان کو وصیت فرمانے کے لیے نکل اس حال میں کہ حضرت معاذؓ سوار تھے اور آپ ﷺ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ ﷺ ان کو وصیتیں فرمائے تو فرمایا کہ اے معاذ! ہو سکتا ہے کہ اس سال کے تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو اور شاید کہ تمہارا گزر میری مسجد اور میری قبر پر ہو۔)

اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ **قال الشَّيْخُ: ”وَهَذَا فِي بَعْثَتِهِ الثَّانِيَةِ“**^(۲۳) اور امام

نبیقی کے شخے سے مراد ”امام حاکم“ ہیں۔

دلیل نمبر ۵

ابونعیم الصہبی نے حلیۃ الـاویا میں ایک روایت ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لَيَالِيَ قَدِيمٍ مِنَ الْيَمِنِ لَمَّا سَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ تَرْكَتَ النَّاسَ بَعْدَكَ؟» قَالَ: تَرْكُهُمْ لَا هُمْ كُمْ إِلَّا هُمُ الْبَهَائِمُ.

(حضرت معاذ بن جبل ﷺ سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں جب کہ میں یمن سے واپس آیا تو آپ ﷺ نے ان سے سوال کیا کہ تم نے لوگوں کو اپنے بعد کس حال میں چھوڑا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ان کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ ان کی قلکرتوبس جانوروں جیسی ہے۔)

اس حدیث کے اندر تو صراحتاً موجود ہے کہ حضرت معاذؓ یمن سے واپس آئے تھے اور آپ ﷺ سے

سوال کیا تھا۔

دلیل نمبر ۶

امام احمد نے اپنی مندرجہ کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت معاذؓ رضی اللہ عنہ کو اہل یمن سے صدقات و زکوہ وصول کرنے کے لیے بھیجا چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ کے حکم کے

- ۲۳ - ابو بکر البیهقی احمد بن الحسین، السنن الکبیر للبیهقی، رقم: ۲۰۱۵۱۔

- ۲۴ - ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الصہبی، حلیۃ الـاویا، حدیث معاذ بن جبل (بیروت: دار الكتب العربی، ۱۹۰۹ھ)، ۱:

مطابق ان سے زکوٰۃ وصول کی۔ اسی دوران اہل یمن نے او قاص^(۲۶) کے اندر بھی زکوٰۃ وصول کرنے کی درخواست کی تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے انکار فرمادیا اور فرمایا کہ میں جب تک آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کر لیتا اس وقت تک تم سے او قاص کے اندر زکوٰۃ وصول نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ یمن سے واپس آئے اور آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ سے اس مسئلہ کے بارے میں سوال کیا روایت کے الفاظ یہ ہیں:

فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَخْذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْحُمْسِينَ، وَبَيْنَ السَّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ التَّهَانِيَّةِ وَالْتَّسْعِينَ، فَأَكَبَّتُ عَلَيْهِمْ، وَقُلْتُ لَهُمْ: حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنَ السَّتِّينَ تَبِيعَتِينَ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعَانِ، وَمِنَ التَّهَانِيَّةِ مُسِنَّتَيْنِ، وَمِنَ الْعُشْرِينَ وَمِنَ الْمَائِةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ، وَمِنَ الْعَشِيرَةِ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيعَيْنِ، وَمِنَ الْعَشِيرِينَ وَمِنَ الْمَائِةِ ثَلَاثَةَ أَتَابِيعَ، وَمِنَ الْمَائِةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ، وَمِنَ الْعَشِيرَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ، وَمِنَ الْعَشِيرِينَ وَمِنَ الْمَائِةِ ثَلَاثَةَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتَابِيعَ، وَأَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مُسِنَّةً أَوْ جَدَعًا، وَرَعَمَ أَيْصًا أَنَّ الْأَوْفَاقَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا»^(۲۷).

(چنانچہ انہوں نے مجھ سے چالیس اور پچاس کے درمیان اور ساٹھ اور ستر کے درمیان اور اسی اور نوے کے درمیان جو عدد ہے ان پر زکوٰۃ کی وصولی کی درخواست کی تو میں نے ان سے کہا کہ (میں تم سے ہر گز زکوٰۃ نہیں لوں گا) یہاں تک کہ میں اس کے متعلق آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ سے سوال ناکرلوں چنانچہ میں آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی خدمت میں حاضر ہو اور ساری صور تحال کے متعلق ان کو آگاہ کیا۔ تو آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر تیس گائے میں ایک تبیعہ اور چالیس میں ایک منہ اور ساٹھ میں دو تبیعے اور ستر میں ایک تبیعہ اور اسی میں دو منہ اور نوے میں تین تبیعے اور سو ایک منہ اور دو تبیعے اور ایک سو دس میں دو منہ اور ایک تبیعہ اور ایک سو نیس میں تین منہ یا چار تبیعے وصول کروں اور آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے مجھے حکم دیا کہ درمیانی اعداد میں کچھ بھی وصول نہ کروں یہاں تک کہ گائے کا عدد اس مقدار کو پہنچ جائے جس میں منہ یا جدعا واجب ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ او قاص کے اندر کوئی فریضہ نہیں (یعنی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔)

اس روایت کو طبرانی نے بھی مجمم کبیر میں روایت کیا۔ اب اس حدیث میں بھی تصریح ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی زندگی کے اندر واپس آئے تھے۔ جب واپس آنا ثابت ہو گیا تو دوبارہ جانا بھی

- ۲۶۔ دو فریضوں کے درمیان پائی جانے والی کسر کو کہتے ہیں۔ مثلاً تیس گائے پر ایک سالہ بچھڑی یا بچھڑا واجب ہوتا ہے اور چالیس پر ایک دو سالہ گائے واجب ہوتی ہے اب اکتیس سے انتا لیس تک کچھ واجب نہیں ہوتا ان درمیانی اعداد کو وقفہ کہا جاتا ہے۔

- ۲۷۔ الطبرانی، المعجم الكبير، المراسيل عن معاذبن جبل، ۲۰: ۷۰، رقم: ۳۶۳؛ احمد بن حنبل، مسن احمد، رقم:

ثابت ہو جائے گا، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کے انتقال کے وقت بہر حال وہ یمن ہی میں تھے۔ ان تمام احادیث و شواہد کو سامنے رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذؓ کی یمن کی طرف روانگی دو مرتبہ ہوئی تھی۔ اس کے بر عکس جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذؓ ایک ہی دفعہ یمن گئے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاذؓ کی یمن جانے کے بعد آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے اندر واپس نا آنا ثابت ہے۔ لیکن انھوں نے اپنے اس دعویٰ پر کوئی مضبوط دلیل پیش نہیں کی جب کہ دوسرے حضرات کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں جن کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذؓ ﷺ کی زندگی کے اندر یمن سے واپس آئے تھے۔ بلکہ بعض نصوص کو دیکھنے کے بعد یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ حضرت معاذؓ دو دفعہ سے بھی زیادہ یمن گئے اور واپس آئے۔ اور آپ ﷺ کی یمن جانے کے بعد واپس نہ آنایا آخری دفعہ روانگی کے بعد ہے جو کہ تقریباً حجۃ الوداع کے بعد ہوئی تھی۔

حضرت معاذؓ کی روانگی کا وقت

حضرت معاذؓ کی روانگی کی تاریخ کے متعلق زیادہ روایات حضرت کعب بن مالک سے مروی ہیں

لیکن ان میں شدید اختلاف ہے اور وہ روایات مندرجہ ذیل ہیں:

- حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت معاذؓ کی روانگی دس ہجری کو حجۃ الوداع سے پہلے ہوئی^(۲۸) جیسے کہ امام بخاری نے ذکر فرمایا اس طور پر کہ باب قائم کیا: ”بَابُ بَعْثِ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ“

اصبهانی نے کعب بن مالک کے حوالے سے روایت ذکر کی ہے اس میں ہے کہ ”فَلَمَّا حَجَّ بَعْثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ لِيَجْبَرُهُ“^(۲۹) اس روایت میں ہے کہ حضرت معاذؓ کی روانگی حجۃ الوداع کے بعد ہوئی۔ عبد الرزاق نے بھی اپنی مصنف میں کعب بن مالک کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔^(۳۰)

- ۲۸۔ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، فتح الباری، باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الى اليمن قبل حجۃ الوداع (بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۷ء)، ۸: ۲۱، رقم: ۲۳۳۲۔

- ۲۹۔ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبهانی، حلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۲۲۔

- ۳۰۔ ابن کثیر اسماعیل بن عمر، البداية و النهاية، باب بعث رسول الله ﷺ الامرء الالى اهل الیمن (بیروت: دار الفکر، ۱۹۸۲ء)، ۵: ۱۰۲؛ الطبرانی، المعجم الكبير، ۲۰: ۳۰، رقم: ۳۲۳۔

ابن جوزی نے ذکر کیا کہ حضرت معاذؓ کی رواگئی غزوۃ تبوک کے بعد ہوئی۔ واندی نے بھی کعب بن مالک کے حوالے سے اسی روایت کو ذکر کیا ہے۔ وبعثہ إلی الیمن بعد غزوۃ تبوک، وشیعہ ماشیاً فی مخرجہ وہ راکب۔^(۳۱)

ابن عبد البر نے عبد الرحمن بن کعب بن مالک کے حوالے سے روایت ذکر کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

”حتَّىٰ إِذَا كَانَ عَامُ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْثَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَافِقَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لِيُجِرَّهُ“^(۳۲) ابو ثور نے بھی کعب کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔

اس روایت سے بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ رواگئی فتح مکہ والے سال ہوئی تھی۔

تواب مجوعی طور پر چار طرح کی روایات ہیں، جتنے الوداع سے پہلے، حج کے بعد، غزوۃ تبوک کے بعد، اور چو تھی روایت فتح مکہ والے سال یعنی آٹھ بھری۔ اب ان روایات میں تلقین کی صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ حضرت معاذؓ کو دو دفعہ یمن بھیجا گیا ایک دفعہ فتح مکہ والے سال اور دوسری دفعہ غزوۃ تبوک کے بعد کیوں کہ حضرت معاذؓ کو دو دفعہ یمن بھیجا گیا ایک دفعہ فتح مکہ والے سال اور دوسری دفعہ غزوۃ الوداع کے بعد لیکن زیادہ قرین قیاس یہ لگتا ہے کہ حج کے بعد بھیجا گیا ہو گا اور اس پر قرینہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں جو آپ ﷺ نے حضرت معاذؓ کو یمن روانہ کرتے ہوئے فرمائے تھے اور وہ الفاظ یہ ہیں۔

”يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَأَنِي بَعْدَ عَامِي هَذَا“ اس حدیث میں ہے کہ اس سال کے بعد

تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے۔ اب اگر کہیں کہ نو بھری میں بھیجا تو پھر لفظ ”عامِی“، ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر کہیں کہ دس بھری میں بھیجا تھا تو بھی درست نہیں ہو گا کیوں کہ آپ ﷺ کا وصال گیارہ بھری میں ہوا۔ زیادہ درست یہ لگتا ہے کہ جتنے الوداع سے واپسی کے بعد گیارہ بھری کے اوائل میں بھیجا ہو گا۔ واللہ اعلم بالصواب!

حضرت معاذؓ کی یمن طرف رواگئی کے مقاصد اور ان کی وہاں پر سرگرمیاں

حضرت معاذؓ کو یمن کی طرف مختلف مقاصد کے لیے بھیجا گیا مثلاً؛ قرآن و سنت کی تعلیم کے

-۳۱- ابن الجوزی عبد الرحمن بن علی، صفة الصفوہ (قاهرہ: دارالحدیث، ۲۰۰۰ء)، ۱۸۵:۱، ترجمہ: ۵۱۔

-۳۲- ابن عبد البر يوسف بن عبد الله، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب (بیروت: دارالجبل، ۱۹۹۲ء)، ۳: ۱۷۰۳، ترجمہ: ۲۲۱۶۔

ترجمہ، ۲۲۱۶؛ ابن کثیر اسماعیل بن عمر، البداۃ والنہایۃ، ۵: ۱۰۳۔

لیے جیسے کہ حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہے: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مُعَاذًا، وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ۔“^(۳۳) آپ ﷺ نے حضرت معاذ اور ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور انکو حکم دیا کہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔

دوسری حدیث میں جس کورویانی نے اپنی مند میں روایت کیا ہے اور وہ یہ ہے: ”عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَوْصَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنَا إِلَى الْيَمَنِ أَنَا وَمُعَاذًا نُعَلِّمُهُمُ السُّنَّةَ۔“^(۳۴) حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھے اور معاذ کو وصیتیں فرمائیں جب ہمیں یمن کی طرف بھیجاں کو سنت کی تعلیم دینے کے لیے۔

اسی طرح ان کو یمن بھیجنے کا ایک مقصد دعوت و تبلیغ کا کام بھی تھا جیسا کہ ابو عوانہ نے اپنی مستخرج میں حدیث روایت کی ہے: ”عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: "بَعَثَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ نَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ۔“^(۳۵) (حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھے اور معاذ کو یمن کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھجا۔

زکوٰۃ و صدقات کی وصولی بھی ان کے مقاصد میں شامل تھی۔ طبرانی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ”عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ۔“^(۳۶) (حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھے یمن والوں کے لیے مصدق یعنی

- ۳۳۔ احمد بن خبل، مسنند احمد، رقم: ۱۹۵۲۳؛ محمد بن عبد اللہ، المستدرک علی الصحیحین، رقم: ۲۰۸۳۔

- ۳۴۔ ابوکبر محمد بن ہارون الرویانی، مسنند الرویانی، ماروی ابو بردہ بن ابی موسی عن ابیه (قاهرہ: مؤسسه قرطبة، ۱۴۳۱ھ)، رقم: ۳۹۹۔

- ۳۵۔ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق، مستخرج ابی عوانہ، باب بیان الخبر المرجب على الموجه لقتال المشرکین (بیروت: دار المعرفة، ۱۹۹۸ء)، رقم: ۲۵۲۲۔

- ۳۶۔ الطبرانی، المعجم الكبير، رقم: ۲۲۹؛ احمد بن خبل، مسنند احمد، رقم: ۲۲۰۸۳۔

صدقات و زکوٰۃ و صول کرنے کے لیے بھیجا۔)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داریوں میں قاضی کا عہدہ بھی شامل تھا جیسے کہ مشہور حدیث میں ہے: ”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ فَصَاءً؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ۔“ (۲۷) (ان) (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو ان کو فرمایا کہ: اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آجائے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کتاب اللہ کی مدد سے فیصلہ کروں گا۔)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن سمجھنے کا ایک مقصد ان کی مالی طور پر معاونت کرنا بھی تھا کیوں کہ ان کا سارا مال قرض کی ادائیگی کے اندر ختم ہو گیا تھا جیسے کہ لمبی حدیث ہے جس میں ہے: ”عَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًا جَيْلًا سَمْحًا مِنْ خَيْرِ شَبَابٍ قَوْمِهِ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّىٰ دَانَ عَلَيْهِ دِينًا أَغْلَقَ مَالَهُ، فَكَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَلِّمَ عُرْمَاءَهُ فَفَعَلَ، فَلَمْ يَضْعُوا لَهُ شَيْئًا فَلَوْ تُرِكَ لِأَحَدٍ بِكَلَامِ أَحَدٍ لَتُرِكَ لِمُعَاذٍ بِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْرُحْ أَنْ بَاعَ مَالَهُ وَفَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، قَالَ: فَقَامَ مُعاذٌ وَلَا مَالَ لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ يَسْتَجِرُهُ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَجَرَّ في هَذَا الْمَالِ مُعَاذٌ، قَالَ: فَقَدَمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ وَقَدْ ثُوُقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ عُمَرُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تُشْبِعَنِي؟ تَدْفَعُ هَذَا الْمَالَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَإِنْ أَعْطَاكُهُ فَاقْبِلْهُ، قَالَ: فَقَالَ مُعاذٌ: لَمْ أَدْفَعْ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا بَعَثْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَجْبِرُنِي، فَلَمَّا أَبَى عَلَيْهِ انْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَرْسِلْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَخُذْ مِنْهُ وَدَعْ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، إِنَّمَا بَعَثْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَجْبِرَهُ فَلَسْتُ بِآخِذٍ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ

مُعَاذُ انْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا فَاعِلًا الَّذِي قُلْتَ، رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ فِي النَّوْمِ
- أَحْسَبَ عَبْدَ الرَّزَاقَ، قَالَ - أَجْرُ إِلَى النَّارِ وَأَنْتَ آخِذُ بِحُجْزَقِي، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى
أَبِي بَكْرٍ بِكُلِّ شَيْءٍ جَاءَ بِهِ حَتَّى جَاءَ بِسَوْطِهِ، وَحَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْتُهُ شَيْئًا، قَالَ:
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هُوَ لَكَ لَا آخِذُ مِنْهُ شَيْئًا۔^(۳۸) (حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ

سے مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ خوب صورت، سخنی اور اپنی قوم میں سب سے بہترین نوجوان تھے، ان سے جب بھی سوال کیا جاتا تو وہ عطا کرتے تھے یہاں تک کہ ان پر قرض اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کا سارا مال ختم ہو گیا (جب قرض داروں نے ان سے مطالبہ کرنا شروع کیا تو انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کریں (مہلت وغیرہ کے لیے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کی لیکن انھوں نے کچھ بھی معاف نہ کیا۔ اگر وہ قرض دار کسی کی فرمائش کرنے پر کچھ حق معاف کرتے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتے (یعنی وہ قرض معاف کرنے یا کوئی رعایت دینے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھے، اگر ایسا کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے کی وجہ سے کرتے)۔ حضرت کعب رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا یا اور ان کی ملکیت میں جو مال تھا اس کو بیننا اور قرض داروں پر تقسیم کرنا شروع کیا یہاں تک کہ جب وہ اس مجلس سے کھڑے ہوئے تو ان کے پاس کچھ بھی مال نہ بچا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کے مال میں سب سے پہلے تجارت کرنے والے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یمن سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے تو انھوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ مال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیں اگر وہ آپ کو عطا کر دیں تو تم قبول کر لیتا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہرگز یہ مال ان کو نہیں دوں گا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (یمن) بھیجا تھا تاکہ میر انصان پورا کریں جب انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انکار کر دیا

- ابو بکر لیتیق احمد بن الحسین، دلائل النبوة (خرجا) باب بعث معاذ وابی موسی الاشعري الى اليمن،

(دارالریان للتراث: دار الكتب العلمية؛ ۱۹۸۸ء)، ۵: ۳۰۵۔

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ آپ اس شخص (معاذ) کو بلوائیں اور ان سے مال لیں اور جتنا مناسب خیال کریں ان کے لیے چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تو ہر گز ایسا نہیں کروں گا کیوں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھیجا ہی ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے تھا تو میں تو ان سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ جب صحیح ہوئی تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں نے بھی ویسا ہی کرنا تھا جیسا کہ آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا میں نے رات خواب دیکھا کہ مجھے آگ کی طرف کھینچا جا رہا ہے اور آپ مجھے پیچھے سے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنا سارا مال لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قسم اٹھا کر عرض کیا کہ کہ میں نے ایک کوڑا بھی نہیں چھوڑا (بلکہ سب کچھ لے آیا ہوں) تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مال آپ کا ہی ہے میں میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔)

یہن کی طرف روانگی کے ذریعے ان کی مالی معاونت کیسے ہوئی، اس کی متعدد شکلیں ممکن تھیں۔ ایک تو عام اور معروف شکل ہو سکتی ہے کہ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھی قرآن نے مصارفِ زکوٰۃ میں ذکر کیا ہے، اس اعتبار سے ان کے لیے بھی ”نمالہ“ (وصولیٰ زکوٰۃ کی اجرت) لینا جائز تھا۔ ممکن ہے اس مدد میں بھی حضرت معاذ کو کچھ معاوضہ ملا ہو۔ یہ بھی امکان ہے کہ دیگر سرکاری فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے بھی انہیں بیت المال سے کچھ ادائیگی کی گئی ہو۔ بطور نمالہ (وصولیٰ زکوٰۃ کی اجرت) یادگیر سرکاری ذمہ دار یوں کے معاوضے کے طور پر ملنے کا امکان ضرور ہے لیکن کہیں اس کی تصریح نظر سے نہیں گزر سکی۔ اس کے علاوہ دو باتیں ایسی ہیں جن کو شاید حضرت معاذ کی خصوصیت کہنا ممکن ہو۔ ان دو خصوصیتوں کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چند سطور بعد آنے والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو مالی نقصان ہوا تھا وہ ان کی کاروباری بے ترتیبی (Business Mismanagement) یا مس میسینیجمنٹ (Random Mismanagement) کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ نقصان بھی دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی وجہ سے تھا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے جو دو خصوصی صور تین تجویز فرمائیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ عام حالات میں قاضی کے لیے حکم ہے کہ منصبِ قضا پر فائز ہونے سے پہلے جن سے گہرے سماجی تعلقات (Social Relations) ہوں ان سے تو تحفے تھائے لے سکتا ہے اس کے علاوہ منصبِ قضا کے دوران کسی سے تحفے تھائے نہیں لے سکتا، لیکن حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کرنے کی عام اجازت مرحمت فرمائی تھی، چنانچہ ابن عساکر نے عبد الرحمن بن غنم سے روایت کیا ہے:

عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلى اليمن قال لي لقد علمت الذي لقيت في أمر الله وفي سببي والذي ذهب من مالك وركب من الدين فقد طيبت لك المدية فما أُهدي لك من شيء تكرم به فهو لك هنئنا.^(۲۹)

حضرت معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے جب مجھے میں بھیجا تو فرمایا کہ:

(تم اللہ کے دین اور میری وجہ سے جس آزمائش میں مبتلا ہوئے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور تمہارا جو مال ختم ہو گیا اور جو قرض تم پر سوار ہو گیا اس کا بھی مجھے علم ہے اس وجہ سے میں نے تمہارے لیئے بدیہی کو حلال کر دیا ہے چنانچہ جو بھی تمہیں تمہارے اکرام کے لیے بدیہی دیا جائے تم تو وہ تمہارے لیئے جائز اور پاکیزہ ہے۔)

رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے اس طرزِ عمل سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت معاذ کے مالی نقصان کی تلافی کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ویسیں یہ حضرت معاذ کی دیانت و امانت پر بھی بہت بڑا اعتماد ہے۔ کیوں کہ با اثر منصب فائز ہونے والوں کو تخفیف تحائف قبول کرنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں یہ تحائف الناصف کی فراہمی میں رکاوٹ نہ بن جائیں، کیوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تخفیف دینے والے کی طرف انسان کا قلبی رجحان زیادہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اگر حضرت معاذ کو خصوصی اجازت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حضرت معاذ کی دیانت و امانت اور Integrity پر بے تحاشاً اعتماد ہے۔

روایات سے حضرت معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی مالی معاونت کی جو دوسری خصوصی صورت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ان کو زکوٰۃ کے مال سے کاروبار کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس کی بظاہر جو صورت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ان کو زکوٰۃ کا مال بطور ”بضاعة“ کے استعمال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ بضاعة بھی مضاربہ ہی کی طرح کا ایک عقد ہوتا ہے، مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرا فریق کا کاروباری عمل کرتا ہے، جو بھی منافع ہو وہ طے شدہ متناسب حصے کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے۔ دوسرے فریق یعنی عملکار کاروبار کرنے والے کو نفع میں سے جو حصہ ملتا ہے وہی اس کی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے۔ بضاع میں بھی ایک فریق کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے فریق کی محنت، تاہم ہونے والا سارا منافع محنت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں منافع نہ ہونے کی صورت میں محنت کرنے والے کی محنت ضائع جاتی ہے، یہی اس کا کاروباری رسک ہوتا ہے۔ حضرت معاذ کے مقرر و ض ہونے کی وجہ سے بظاہر وہ براہ راست بھی مصرفِ زکوٰۃ بن سکتے تھے لیکن آپ

۳۹ - علي بن الحسين ابن عساکر، تاریخ دمشق لابن عساکر (دار الفکر للطباعة للنشر و للتوزیع، ۱۹۹۵ء)، ۵۸:

صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کی بجائے انہیں بطور بضائع مال زکوٰۃ میں کاروبار کی اجازت دی، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت معاذؓ کی عزت نفس کا خیال کرنا مقصود تھا، کیوں کہ حضرت معاذؓ کے دل میں خیال آسکتا تھا کہ میں زکوٰۃ کے مال سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور "بضائع" کے زکوٰۃ و صدقات کے مال سے کاروبار کی اجازت دی، تاکہ یہ اپنی محنت کا صلمہ لے رہے ہوں مفت میں مال زکوٰۃ لینے کا ان کی طبیعت پر بوجھ نہ ہو۔ اور زکوٰۃ کے مال سے کاروبار کی اجازت کی دلیل وہ روایت ہے جس کو ابن عبد البر نے اپنی مند میں نقل کیا ہے:

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عَامٌ فَتَحَّمَّلَ مَكَّةً بَعْثَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لِيُجَبِّرُهُ، فَمَكَّثَ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ أَمِيرًا، وَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اتَّجَرَ فِي مَالِ اللَّهِ هُوَ.

(جب فتح مکہ والاسال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو یمن کی ایک جماعت کی طرف بھیجا تاکہ اس کے ذریعے وہ حضرت معاذؓ کا نقصان پورا کریں چنانچہ حضرت معاذؓ کو یمن میں بطور امیر کے ٹھہرے رہے۔ اور یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے مال میں تجارت کی۔)

اور اللہ کے مال سے مراد زکوٰۃ و صدقات کا مال ہی ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی یمن میں تقری بطور عامل کے ہوئی تھی تو اس سے بھی لگتا ہے کہ مال اللہ سے مراد زکوٰۃ و صدقات کا مال ہی ہے۔

نوٹ:

یہاں ضمناً ایک اور مسئلے کی طرف توجہ بھی مناسب ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ آج کل جن لوگوں کے ہاں واجب الادا زکوٰۃ کی بڑی مالیت ہوتی ہے وہاں بعض اوقات یہ تجویز سامنے آتی ہے کہ زکوٰۃ کی یہ رقم براہ راست مستحقین پر خرچ کرنے کی بجائے اسے لنفع بخش سرمایہ کاری میں لگایا جائے، جس سے مسلسل لنفع آتارہے، اور وہ لنفع ہر سال مصارف زکوٰۃ پر خرچ ہو۔ حضرت معاذؓ کا یہ واقعہ اس مسئلے سے کتنا متعلق ہو سکتا ہے اس مسئلے کے مطالعہ و تحقیق کے دوران اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔

حضرت معاذؓ کو یمن کی طرف بھیجنے کے جو مقاصد اور ذکر کیے گئے وہ مختلف احادیث کے تنوع سے معلوم ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں مثلاً ایک یہ بھی تھا کہ ان کو یمن کے اندر موجود تمام سفیروں یا عاملوں کا امیر بناؤ کر بھیجا کیا تھا جیسا کہ بلاذری نے حضرت عروہ بن زمیرؓ سے روایت کیا ہے:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى ذُرْعَةَ بْنِ ذِي يَرَنَّ. «أَمَّا بَعْدُ» فَإِذَا أَتَاهُمْ رَسُولِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَصْحَابُهُ فَاجْمَعُوا مَا عِنْدُكُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْحُزْنَةِ فَأَبْلِغُوهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ

أَمِيرُ رُسُلِيْ مُعَاذُ وَهُوَ مِنْ صَالِحِيْ مَنْ قِيلَیٰ۔^(۲۱)

(حضرت عروہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے ذرعتہ بن ذی یزان کو لکھا (اما بعد): ”جب تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی آجائیں تو تم اپنے صدقات و جزیہ جمع کر کے ان تک پہنچاؤ۔ اس لیے کہ میرے سفیروں کے امیر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میری طرف سے بھیجے جانے والوں میں سے سب سے زیادہ نیک ہیں۔)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یمن کی طرف روانگی کا منظر

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب آخر دفعہ یمن بھیجے جانے لگے تو اس وقت عجیب منظر تھا۔ محب اپنے محبوب سے بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہیں ہو گا کہ جسم اپنی روح سے ہمیشہ کے لیے دنیا میں جدا ہو رہے تھے۔ یہ فراق کا صدمہ تو ایسا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یمن روانگی کے تقریباً اڑھائی ماہ بعد جب آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے قوی اور بہادر انسان اپنے حوش و حواس کھو بیٹھے اور تلوار نکالے فرماتے ہیں:

إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ: لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَبْضَ إِلَّا ضَرَبَتْهُ بِسِيفِيْ هَذَا.^(۲۲)

(حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس کو بھی میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی روح قبض کر لی گئی ہے تو میں اسکو اپنی تلوار سے مار داؤں گا۔)

تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جیسے ریقق القلب انسان کی اس وقت کیا حالت ہو گی جب آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے ان کو فرمایا کہ اپنی سواری تیار کر کے میرے پاس آؤ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ، انطِلِقْ فَأَرْخُلْ رَاجِلَتَكَ، ثُمَّ اتَّبِعِيْ أَبْعَثَكَ إِلَى الْيَمَنِ» فَانطَلَقْتُ فَرَحَلْتُ رَاجِلَتِي ثُمَّ جِئْتُ فَوَقَتْتُ بِبَابِ الْمُسْجِدِ حَتَّى أَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْدَدْ بِيَدِي ثُمَّ مَضَى مَعِي فَقَالَ: «يَا

- ۲۱ - احمد بن حنبل البزاری، فتوح البلدان، وفود اهل الیمن الى النبي ﷺ و اسلامهم (بیروت: دار و مکتبہ هلال، ۱۹۹۸ء)، ۷۷۔

- ۲۲ - محمد بن حبان بن احمد، السیرة النبویہ و اخبار الخلفاء لابن حبان، ذکر وفاة رسول اللہ ﷺ (بیروت: الكتب الشفافیہ، ۷۱ھـ، ۱: ۳۰۱۔)

مُعَاذُ، إِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ^(۲۳)۔ (الحدیث)

(حضرت معاذ بن جبل صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے ان کو فرمایا: اے معاذ جاؤ اور اپنی سواری تیار کرو پھر میرے پاس آؤ میں تجھے یہیں کھیجوں گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں چلا اور اپنی سواری تیار کی اور میں آگیا اور مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے مجھے (اندر آنے کی) اجازت دی۔ (پھر آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ کھڑے ہوئے) اور میرا ہاتھ پکڑا اور پھر میرے ساتھ چل اور فرمایا کہ اے معاذ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔۔۔ (الحدیث))

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے حضرت معاذ کو کافی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں پھر آخر میں وہ مشہور کلمات ارشاد فرمائے جن کو سننے کے بعد تو حضرت معاذ کے قدموں تلے سے تو گویا زمین نکل گئی اور ان کی آنکھوں کے چشمے بھوٹ پڑے ان کی یہ حالت دیکھ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ سے بھی برداشت نہ ہو سکا اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور چہرہ مبارک مدینہ منورۃ کی طرف کر لیتا کہ معاذ کے آنسوؤں کا نہ دیکھیں اور معاذ کے لیے بھی رسول اللہ کے آنسو دیکھ صبر کا دامن تھا میر رکھنا مزید مشکل نہ ہو جائے۔ روانگی کے وقت کا یہ واقعہ متعدد کتب احادیث میں موجود ہے ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے اور وہ حدیث مندرجہ ذیل ہے:

”عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَصِّيهِ مُعَاذَ رَاكِبٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِلَيْكُمْ مُعَاذٌ، إِنَّكُمْ عَسَى أَنْ لَا تَتَقَوَّنَ بَعْدَ عَامِي هَذَا، لَعَلَّكُمْ أَنْ تُمْرَأُ بِسَجْدَةٍ وَقَبْرِي فِي بَكَارَى مُعَاذٌ خَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ التَّفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ حَسَّنَ الْمُدِينَةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هُؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَهْمَمَ أُولَى النَّاسِ بِي، وَإِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِي الْمُتَقْوُنُونَ، مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا، اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُجْلِلُهُمْ فَسَادَ مَا أَصْلَحْتَ، وَلَمْ لِي كُفُوْنَ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا كَمَا يُكْفِأُ الْإِنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ۔“^(۲۴)

(حضرت معاذ بن جبل صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ سے مردی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے جب ان کوین کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ ان کو وصیتیں فرمائے ہے تھے اس حال میں کہ معاذ اپنی سواری پر سوار تھے اور

۲۳ - ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الا صہبیانی، حلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۴۰۔

۲۴ - محمد ابن حبان، صحیح ابن حبان، ذکر البیان بان معاذ بن جبل کان من اعلم الصحابہ بالحلال والحرام، رقم: ۶۳۷۔

آپ ﷺ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ جب نصیحتیں کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے معاذ رَبِّ الْعَالَمِينَ! ممکن ہے کہ اس سال کے بعد تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ شاید کہ تمہارا میری مسجد اور میری قبر پر گزر ہو۔ حضرت معاذ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سن کر آپ ﷺ کے فراق اور جدائی کے خوف سے رونے لگے (ان کی یہ حالت دیکھ کر) آپ ﷺ نے اپنا رخ انور مدینہ منورۃ کی طرف کر لیا اور پھر فرمایا کہ: یہ میرے قبلیے کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے زیادہ قریب اور مجھے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ لوگوں میں میرے زیادہ قریب مقنی لوگ ہیں جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو۔ اے میرے اللہ! میں ان کے لیے اس چیز کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس کو آپ نے درست کر دیا۔ اور اللہ کی قسم میری امت دین سے ایسے نکلے گی (اور اکثر روایات میں ہے کہ نکالی جائے گی) جیسے کہ پانی والے برتن کو وادی کے اندر انڈیل کر خالی کر دیا جاتا ہے۔)

پھر آپ ﷺ نے ان کو وہ دعاء کر رخصت کر دیا جس کو ابن حجر (عَلِيُّ اللَّهِ عَنْهُ) نے الاصابة میں عبید بن صخر کے حوالہ سے ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے:

عن عبید بن صخر، قال: قال النبي صلی الله علیہ وآلہ وسلم لمعاذ لما وَدَعَهُ: «حفظك الله من بين يديك ومن خلفك، وعن يمينك وعن شمالك، ومن فوقك ومن تحتك، وأدرا عنك شرور الانس والجن». (۲۵)

(عبید بن صخر سے مردی ہے کہ آپ ﷺ نے جب حضرت معاذؓ کو جب الوداع کیا تو ان کے لیے یوں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے آپ کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے باکیں سے اور آپ کے اوپر سے اور آپ کے نیچے سے اور لوٹا دے آپ سے جنوں اور انسانوں کے شر کو)

آپ ﷺ کے حضرت معاذ رَبِّ الْعَالَمِينَ کو یمن روانگی کے وقت نصائح اور احکام

آپ ﷺ نے حضرت معاذ رَبِّ الْعَالَمِينَ کو جو نصیحتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے بعض انتظامی امور سے متعلق ہیں اور بعض کا تعلق احکام سے ہے۔ اور زیادہ تر نصیحتیں رقاد سے متعلق ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مذکورہ بحث سے حضرت معاذ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا یمن میں دو دفعہ جانا ثابت ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے پہلی مرتبہ روانگی کے وقت کون سی باتیں ارشاد فرمائیں اور دوسری مرتبہ کون سی نصیحتیں اور احکامات ارشاد فرمائے۔ اس کے متعلق کوئی حقیقی بات تو نہیں کی جاسکتی البتہ چند باتیں قرآن کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کون سی باتیں پہلی مرتبہ روانگی کے وقت ارشاد فرمائیں اور کون سی دوسری مرتبہ۔

۱. وہ تمام نصائح جن کے اندر تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا وہ پہلی مرتبہ رواگی کے وقت ارشاد فرمائیں تھیں کیوں کہ پہلی مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ بھی آپ کے ساتھ تھے جب کہ دوسری مرتبہ حضرت معاذؓ اکیلے یہیں گئے تھے۔
۲. جن کے اندر زکوہ و صدقات یادوسرے امور کے متعلق احکامات ہیں وہ بھی پہلی مرتبہ ارشاد فرمائیں تھیں۔
۳. جب کہ وہ نصائح جن کے اندر وصیت کا لفظ یا ایسی بات ارشاد فرمائی جو مستقل فرماق پر دلالت کرتی ہے مثلاً آپ ﷺ نے فرمایا کہ شاید آج کے ہماری ملاقات نہ ہو۔
۴. وہ نصائح اور احکام جن کے اندر واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔
۵. وہ نصائح اور احکام جو راقق سے متعلقہ ہیں وہ عام طور پر دوسری دفعہ رواگی کے وقت ارشاد فرمائے۔ اب سب سے پہلے ہم وہ احادیث ذکر کریں گے جن کا تعلق احکام و انتظامی امور کے ساتھ ہے۔

احکام و انتظامی امور سے متعلقہ نصائح اور احکامات

نمبر ۱: لا یو شاک میں زکوہ کی تفصیل

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَعَاذًا، قَالَ: ”بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقٌ أَهْلَ الْيَمَنِ، وَأَمْرَنِي أَنْ أَخْدُ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا - وَالتَّبِيعُ جَدَّعٌ أَوْ جَدَعَةٌ - وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعينَ مُسِنَّةً، وَمِنَ السِّيِّنَ تَبِيعَنِ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعَنِ، وَمِنَ الْمَهَانِ مُسِنَّتِينِ، وَمِنَ السَّعْدِينَ ثَلَاثَةَ أَتَابِعَ، وَمِنَ الْمِلَأَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَنِ، وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةَ ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَتَابِعَ، وَأَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَخْدُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا، إِلَى أَنْ تَبِعَ مُسِنًا أَوْ جَدَعًا، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فِرِيضَةَ فِيهَا۔^(۲۹)

(یحییٰ بن حکم سے مردی ہے کہ حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ جب آپ ﷺ نے مجھے یہیں والوں کے لیے مصدق (زکوہ و صدقات وصول کرنے والا) بنکر بھیجا تو مجھے حکم دیا کہ: "میں تیس گائے میں ایک تبعیع (گائے کا وہ بچ جو دو سال مکمل

- ۲۶ - حمید بن احمد ابن زنجویہ، الاموال لابن زنجویہ، باب صدقة الفطر و مافيها من السن (سعویہ: مرکز الملک فیصل للبحوث والدراسات الاسلامیہ، ۱۹۸۶ء)، رقم: ۱۳۵۶؛ الطبرانی، المعجم الكبير، رقم: ۳۶۳؛ احمد بن حنبل، مسنند احمد، رقم: ۲۲۰۸۳۔

کر کے تیرے سال میں شروع ہو چکا ہو) اور چالیس میں ایک مسنت (گائے کا وہ بچ جو تین سال مکمل کر کے چوتھے سال میں شروع ہو چکا ہو) اور ساٹھ میں دو تیسے اور ستر میں ایک مسنت اور ایک تبیعہ اور اسی میں دو منے اور نوے میں تین تیسے اور سو میں ایک مسنت اور دو تیسے اور ایک بیس میں تین منے یا چار تیسے وصول کروں اور فرمایا کہ مجھے آپ ﷺ نے حکم دیا کہ میں ان اعداد کے درمیان میں کچھ بھی نہ لوں یہاں تک وہ اتنی مقدار کو پہنچ جائیں جس کے اندر ایک مسنت یا تبیعہ واجب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اوقات (۲۷) کے اندر رزکوٰۃ کا فریضہ نہیں ہے۔

نمبر ۲ جزیے کی مقدار

عَنْ مُعَاذِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالٍ - يَعْنِي مُحْتَلِّمًا - دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ثَيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ». (۲۸)

(حضرت معاذ رض سے مردی ہے کہ آپ ﷺ نے جب انھیں یمن کی طرف بھیجا تو حکم دیا کہ وہ ہر حالم یعنی بالغ سے ایک دینار یا اس کی قیمت کے برابر یمنی کپڑوں کے جوڑے وصول کروں۔)

نمبر ۳: زرعی پیداوار میں شرعی واجبات کا اصول

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، «وَأَمْرَنِي أَنْ آخُذَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَمَا سُقِيَ بَعْلًا، الْعُشَرُ، وَمَا سُقِيَ بِاللَّوَالِي نِصْفَ الْعُشَرِ». (۲۹)

(حضرت معاذ رض سے مردی ہے کہ آپ ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں ان زمینوں سے جو بعلا (۵۰) سیراب ہوتی ہوں وہاں کی پیداوار میں سے عشر لینی دسوال حصہ وصول کروں اور جن کو ڈلوں کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے ہو نصف عشر لینی دسوال حصہ وصول کروں۔)

نمبر ۴: پھلوں اور انواع میں زکوٰۃ

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمَعَاذَ بْنِ جَبَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ بَعْثَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرُ وَالْحِنْكَةُ وَالثَّمْرُ وَالزَّيْبُ (۵۱)

۳۷۔ دو فریضوں کے درمیان پائی جانے والی کسر کو کہتے ہیں۔ مثلاً تیس گائے پر ایک سالہ بچھڑی یا بچھڑ اور جب ہوتا ہے اور چالیس پر ایک دو سالہ گائے واجب ہوتی ہے اب اکتیس سے انتیس تک کچھ واجب نہیں ہوتا ان درمیانی اعداد کو وقص کہا جاتا ہے۔

۳۸۔ ابو اوزیلیمان بن الاشعث، سنن ابی داود، رقم: ۳۰۳۸؛ احمد بن شیعہ النسائی، سنن النسائی، رقم: ۲۲۵۰۔

۳۹۔ احمد بن الحسین لیثیق، السنن الکبریٰ للبیهقی، رقم: ۷۶۹۱؛ ابن ماجہ محمد بن یزید، سنن ابن ماجہ، رقم: ۱۸۱۸۔

۴۰۔ بعل ان زمینوں کو کہتے ہیں جو آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہوں یا جہاں جڑیں خود زمین سے پانی چوں لیتی ہوں۔

۴۱۔ ابن ملقن عمر بن علی، تحفۃ المحتاج الی الادلة المنهاج، باب زکاۃ الشیار (کمہ مکرمہ: دار حراء، ۱۹۸۶ء)، رقم: ۹۱۵

حضرت ابو موسی اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہمہ سے مروی ہے کہ جب ان دونوں کو آپ ﷺ نے یمن کی طرف بھیجا (تو فرمایا) کہ ان چار کے علاوہ کسی اور (چھل وغیرہ) میں زکوٰۃ نہ لینا (اور وہ چار یہ ہیں) جو، گندم، کھجور اور کشمش،، (تاکہ کچھ چیزوں کی زکوٰۃ مالکان اپنے طور پر بھی ادا کرنے کے قابل ہوں)

نمبر۔۵۔ مرتد کا حکم:

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «أَتَيْتَ رَجُلًا إِذْنَهُ
عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبِلْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاصْرِبْ عُنْفَهُ، وَأَتَيْتَ امْرَأً إِذْنَهُ
عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا، فَإِنْ تَابَتْ فَاقْبِلْ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاسْتَبِّهَا»۔

(حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ ﷺ نے انکو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا؛ ”جو بھی مرد اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کو (اسلام کی) دعوت دو چنانچہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کرلو اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دو۔ اور اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو تو اسکو بھی اسلام کی دعوت دو اگر توبہ کر لے تو اسکو قبول کرلو اور اگر انکار کر دے تو اس سے بار بار توبہ کرنے کا کہو، (یعنی اسے قتل نہیں کیا جائے گا)۔” (۵۰)

نمبر۔۶: سرکاری مال کے استعمال میں احتیاط

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے لوگوں سے ہدایا وغیرہ وصول کر لینے کی اجازت دی تھی اور اس کے ساتھ بیت المال کامال بطور ”بضاعة“ کے یاویے ہی استعمال کرنے کی اجازت دی تھی جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر کس قدر اعتماد تھا لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان کو اجتماعی مال کے اندر احتیاط کی تلقین فرمائی اور یہ احتیاط کس قدر اہم ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے جسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے:

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي
أَثْرِي فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: ”أَتَدْرِي لَمْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِعِيرٍ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ، {وَمَنْ يَعْلُلُ

الطبراني، المعجم الكبير، رقم: ۳۱۳۔

۵۲۔ الطبراني، المعجم الكبير، رقم: ۹۳؛ سليمان بن احمد الطبراني، مسنون الشاميين، مکحول عن ابی ارطاء

اليعمری (بیروت: مؤسسة الرسالة، ۱۹۸۲ء)، رقم: ۳۵۸۱۔

يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ۱۶۱]، هَذَا دَعْوَتُكَ، فَامْضِ لِعَمَلِكَ“^(۵۳)

(حضرت معاذ بن جعفرؑ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے مجھے یہن کی طرف بھیجا چنا چہ جب میں چل پڑا تو آپ ﷺ نے میرے پیچے کسی کو بلانے کے لیے بھیجا چنا چہ میں واپس آگئا تو آپ ﷺ نے فرمایا؛ تحسیں پتہ ہے کہ میں نے تمہاری طرف آدمی کو بلانے کے لیے کیوں بھیجا؟ کوئی چیز میری اجازت کے بغیر نہ لینا کیوں کہ وہ خیانت ہے۔ (الله تعالیٰ کا ارشاد ہے) ”اور جو بھی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس مال کے ساتھ آئے گا جو اس نے خیانت کر کے حاصل کیا“ [آل عمران: ۱۶۱] یہ بات بتانے کے لیے میں نے تمہیں بلا یا تھا چلو اب اپنے کام پر کلک پڑو۔

ایک دوسری حدیث جس کو عبد الرحمن بن غنمؑ سے حضرت معاذؑ سے روایت کیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے:
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله (صل الله عليه وسلم) إلى اليمن قال لي لا تhabi في أمر الله ولا في مال الله فإنه ليس لك ولا لأبيك وأد إلهم الحق في كل قليل أو كثير.^(۵۴)

عبد الرحمن بن غنم حضرت معاذؑ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذؑ نے فرمایا کہ جب آپ ﷺ نے مجھے یہن کی طرف بھیجا تو مجھے فرمایا؛ اللہ کے حکم کے معاملے میں کسی سے رور عایت نہیں چلتی اور نہ ہی اللہ کے مال کے بارے میں (مثلاً اپنے متعلقین کو بیت المال سے بدایا ہے شروع کر دو، یا ان کے مالی واجبات میں رعایت دینا شروع کر دو) کیوں کہ وہ نہ تو تمہارا ہے اور نہ ہی تمہارے باپ کا (بیت المال میں) لوگوں کے حقوق ادا کرو وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔

نمبر ۷: دعوتِ اسلام اور احکام کی تنفیذ میں تدریج

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعَذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعْثَةِ إِلَى الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جَعْتُمُهُمْ، فَادْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْرِبْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْرِبْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فُدُّ دَعَى فَقَرَائِبِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِبَهُمْ أَمْوَالِهِمْ»^(۵۵)

-۵۳۔ محمد بن عیسیٰ الترمذی، سنن الترمذی، باب هدایا الامراء، رقم: ۱۳۳۵؛ احمد بن عمرو والبزار، مسنون البزار، رقم: ۲۶۷۳۔

-۵۴۔ ابن عساکر علی بن الحسین، تاریخ دمشق لابن عساکر، رقم: ۵۸، ۳۰۹۔

-۵۵۔ محمد بن اسماعیل البخاری، الجامع الصحیح، رقم: ۱۳۹۱؛ عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی، سنن الدارمی، کتاب الزکۃ، باب فرض الزکۃ (سعودیہ: دارالمغنى للنشر والتوزیع، ۲۰۰۰ء)، رقم: ۱۶۵۵؛ محمد بن عیسیٰ الترمذی، سنن الترمذی، رقم: ۶۲۵۔

(حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیهم السلام نے حضرت معاذ رضي الله عنه کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، «بے شک تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس آؤ گے چنانچہ جب تم ان کے پاس آؤ تو ان کو شہادتیں کی طرف دعوت دینا۔ اگر وہ تھماری یہ بات مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن ورات میں ان پر پانچ نمازوں کو فرض کیا ہے چنانچہ اگر وہ تھماری اس حکم میں بھی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ (زکوٰۃ) کو فرض کیا ہے جو انہی کے اغیاء سے لیکر انہی کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ پس اگر وہ تھماری یہ بات بھی مان لیں تو ان کے عمدہ مال زکوٰۃ میں وصول کرنے سے اپنے آپ کو بچانا اور مظلوم کی بد دعا سے پچنا کیوں کہ اسکے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔)

نمبر ۸: رعایا پر ظلم کرنے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعْثَةِ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَهُ وَيَبِينَ اللَّهُ حِجَابَ»^(۵۶)

(حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے مردی وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیهم السلام نے حضرت معاذ رضي الله عنه کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ، مظلوم کی بد دعا سے پچنا کیوں کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔)

نمبر ۹: نماز کی اہمیت اور اس کے اوقات کی تحدید

عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن قال؛ ليكن من أكبر همل الصلاة فإنها رأس سلام بعد الإقرار بالدين إذا كان الشتاء فعجل الفجر عند طلوع الفجر وأطل القراءة في غير أن تمل الناس أو تكره إلهم أمر الله وعجل الظهر حين ترول الشمس وصل العصر والمغرب على میقات واحد في الشتاء والصيف وصل العصر والشمس بيضاء وصل المغرب حين تغرب الشمس وصل العتمة واعتم بها فإن الليل طويلاً وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوها وأخر الظهر بعد أن يتنفس الظل ويتحول الريح فإن الناس يقيلون وأمهلهم حتى يدركوها وصل العتمة ولا تعتم بها فإن الليل قصير.^(۵۷)

- ۵۶۔ محمد بن إسحاق المخاري، الجامع الصحيح، رقم: ۱۳۹۶؛ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي، كتاب

الزكاة، باب فی فرض الزکاة (سعودیہ: دارالمغنى للنشر والتوزیع، ۲۰۰۰ء)، رقم: ۱۶۵۵؛ محمد بن عیسیٰ

الترمذی، سنن الترمذی، رقم: ۶۲۵۔

- ۵۷۔ ابن عساکر علی بن الحسین، تاریخ دمشق لابن عساکر، ۵۸: ۵۰۹۔

(عبد الرحمن بن غنم حضرت معاذؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ جب آپ ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا؛ تمہاری سب سے بڑی فکر نماز ہونی چاہیے کیوں کہ دین کا اقرار کرنے کے بعد نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ چنانچہ جب سردی کا موسم ہو تو طلوع فجر کے ساتھ ہی فجر کی نماز کو ادا کرنا شروع کرو اور لمبی قراءت کرو لیکن خیال رکھو کہ لوگ آکتا ہے محسوس نہ کریں اور اللہ کا حکم (نماز) کو ناپسند نہ کرنے لگیں۔ اور جب سورج تھوڑا سا ڈھلے تو ظہر کی نماز پڑھو اس حال کرو اور عصر اور مغرب سردی اور گرمی میں ایک ہی وقت میں پڑھو۔ (اور وہ وقت یہ ہے کہ) عصر کی نماز پڑھو اس حال میں کہ سورج روشن ہو اور سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کرو اور عشاء کی نماز پڑھو اور اس کو ذرا رات کو موخر کرو کیوں کہ (سردیوں کی) راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ اور جب سردی کا موسم ہو تو فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو کیوں کہ (اگر میوں کی) راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں چنانچہ ان کو مہلت دو کہ وہ فجر کی نماز کو پہنچ جائیں اور ظہر کو موخر کریں یہاں تک کہ سایہ سانس لے لے (یعنی سایہ تھوڑا سا ملبہ ہو جائے) اور ہوا چلنے لگ جائے۔ کیوں کہ لوگ دوپہر کو قیوولہ کرتے ہیں چنانچہ ان کا خیال کرو کہ وہ نماز کو پالیں اور عشاء کی نماز ادا کرو لیکن اس کو موخرنہ کرو اس لیے کہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔)

نمبر: ۱۰ قاضیوں اور جھوٹ کے لیے قضائی اصول اور مصادرِ قانونِ اسلام

عَنْ مُعاذٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءً؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَفْضِي بِسُسْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُسْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهَدُ رَأِيِّي لَا أُلُوَّ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرِضِي رَسُولَ اللَّهِ» (۵۸)

(حضرت معاذؓ سے مردی ہے کہ جب آپ ﷺ نے معاذؓ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ: اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آجاتا ہے تو تم اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں (سب سے پہلے) کتاب اللہ کی مدد سے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ اگر تم قرآن پاک میں اس کا حل نہ پاسکو تو؟ تو انھوں نے عرض کیا کہ پھر میں رسول اللہ ﷺ کی سنت کی مدد سے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں بھی اس کا حل نہ لے تو؟ تو حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی سر اخوانہ رکھوں گا۔ (جب آپ ﷺ نے یہ سناتو) آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے

رسول اللہ ﷺ کے سفیر کی ایسی بات اور طریقے کی رہنمائی فرمائی اور توفیق دی جس نے رسول اللہ ﷺ کو خوش اور راضی کر دیا۔)

نمبر ۱۱: تنگی نہیں آسانی

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُعاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «يَسِّرْ أَوْ لَا تُعَسِّرْ، وَبَشِّرْ
وَلَا تُنْفِرْ، وَتَطَاوِعْ أَوْ لَا تُخْتَلِفْ». (۵۹)

(آپ ﷺ نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھجو تو ان کو فرمایا؛ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تنگی پیدا نہ کرنا، اور لوگوں کو خوش خبریاں دینا ان میں نفرت نہ پھیلانا اور آپس میں اتفاق سے رہنا اختلاف نہ کرتے پھرنا۔)

نمبر ۱۲: غلطی ہو جانے پر ماتحتوں سے معافی مانگنا اور انہیں مطمئن رکھنا

عن معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمان قال لي واعتذر إلى أهل عملك في كل أمر خشيت أن يقع في أنفسهم عليك عتب حتى يغدووك. (۶۰)

حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے جب مجھے یمن کی طرف بھجو تو فرمایا: اپنے عاملوں اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے ہر اس معاملے میں عذر طلب کرنا جس کے بارے میں تمھیں خوف ہو کہ ان کے دلوں میں تمھارے متعلق کوئی ناگواری آگئی ہے یہاں تک کہ وہ تمہارا عذر قبول کر لیں (یعنی ان کا دل صاف ہو جائے۔)

نمبر ۱۳: علم میں اصابت رائے پانے کا گر

عن عبید بن صخر بن لوذان الأنصاری السلمی وكان فيمن بعثه النبي ﷺ مع عمال اليمان..... فقال يعني معاذ إذا سئلت واحتصر إلي فيها ليس في كتاب الله ولم أسمع منك فيه سنة فقال تواضع الله عز وجل يرفعك واستدق الدنيا تلفك الحكمة فإنه من تواضع لله عز وجل واستدق الدنيا أظهر الله الحكمة من قلبه على لسانه ولا تقضين ولا تقولن إلا بعلم فإن أشكال عليك أمر فاسأل ولا تستحي واستشر فإن المستشير معان والمستشار مؤمن ثم اجتهد فإن الله عز وجل إن يعلم منك الصدق يوفقك فإن أليس عليك فقف وأمسك حتى تتبينه أو تكتب

- ۵۹ - محمد بن اسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، رقم: ۳۰۳۸؛ ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري، صحيح مسلم، باب في

الامر بالتيسيرو ترك التنبير (بيروت: دار احياء التراث العربي)، رقم: ۱۷۳۳۔

- ۶۰ - ابن عساکر علی بن الحسین، تاريخ دمشق لابن عساکر، ۵۸: ۳۰۹۔

إِلَيْهِ وَلَا تَضَرُّنَ فِيهَا لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنْتِي عَلَى قَضَاءِ إِلَّا عَنْ مَلَأً وَاحْذَرُ الْهُوَى فَإِنَّهُ
قَائِدُ الْأَشْقِيَاءِ إِلَى النَّارِ۔ (۶۱)

(حضرت عبید بن حخر سے مردی ہے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو آپ ﷺ نے (بطور معادون و مددگار کے) یمن کے عمال کے ساتھ روانہ فرمایا تھا (بھی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں) پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور میرے پاس ایسا مقدمہ آجائے جس کا حل کتاب اللہ میں موجود نہ ہو اور نہ ہی میں نے اس کے متعلق آپ سے کوئی ارشاد سنایا ہو تو (مجھے کیا کرنا چاہیے)۔ آپ ﷺ نے (اس سوال کا جواب دینے سے پہلے) ارشاد فرمایا! اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمھیں بلند کر دیں گے اور دنیا کو حقیر جانو تو تم پر حکمت القاء کی جائے گی۔ کیوں کہ جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اور دنیا کو حقیر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اور اس کی زبان پر حکمت ظاہر فرماتے ہیں۔ اور علم کے بغیر کسی مقدمے اور معاملے میں کچھ نہ کہو۔ اگر تم پر کسی مسئلہ کا جواب دینا مشکل ہو جائے تو کسی (علم) سے پوچھ لوا اور اس میں شرم نہ کرو۔ اور مشورہ کرتے رہو کیوں کہ مشورہ کرنے والے کی مدد کی جاتی ہے اور جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ مو تمکن ہوتا ہے (یعنی اس پر اعتماد کیا گیا ہوتا ہے اس لیے اس اعتماد پر پورا اتنا اس کی ذمہ داری ہے)۔ اس کے بعد پھر اس مسئلہ میں اجتہاد کرو پس اگر اللہ تعالیٰ نے تم میں صدق طلب پائی تو وہ آپ کو درست بات کی توفیق دیں گے۔

اور اگر تمہارے اوپر کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے تو رک جاؤ اور فیصلہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لو یہاں تک کہ وہ تم پر واضح ہو جائے یا وہ تم میری طرف لکھ کر بھیج دو۔ اور کسی کو حد نہ لگا دی ایسے معاملہ میں جس کے بارے میں تم حد کی سزا کتاب اللہ اور میری سنت میں نہ پاؤ ہاں مگر اہم لوگوں کو اعتماد میں لے کر (تعزیری سزادے سکتے ہو)۔ (اس طرح کے معاملات میں اجتماعی رائے کی بجائے) محض ذاتی رجحان اور خواہش کی اتباع سے پھانکیوں کہ وہ توبہ مختون کو آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔)

اس روایت کے مطابق علم میں اصابت رائے حاصل کرنے کے جو گر آپ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بتائے ان کو خلاصے کے طور پر فہرست کے انداز میں پیش کرنا چاہیں تو وہ کچھ یوں ہنتی ہے:

- تواضع اختیار کرنا تو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائیں گے۔
- دنیا کو حقیر سمجھنا تو اللہ زبان و دل پر حکمت کا القا کریں گے۔
- جب تک پورے وثوق کے ساتھ متعلقہ مسئلے کا علم نہ ہو جائے اور صورت حال اچھی طرح واضح نہ ہو جائے کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا اور نا ہی اس کے بارے میں کوئی بات کرنا۔
- اگر کوئی مسئلہ سمجھنا آئے تو اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کرنا۔

- جو بات خود کو معلوم نہ ہو دوسروں سے پوچھنے میں حیانہ کرنا۔
- علمی معاملات و مسائل کے بارے میں مشورہ کرنا۔
- ان مذکورہ باتوں کے بعد اپنے علم کے ذریعے اجتہاد کرنا۔
- اگر کوئی مسئلہ ملتبس ہو جائے تو اس میں توقف اختیار کرنا بیہاں تک کہ وہ مسئلہ واضح ہو جائے۔
- اگر واضح نہ ہو تو اپنے باعتماد عالم سے خط و کتابت وغیرہ کے ذریعے دریافت کرنا۔
- اگر کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے نہ ملے اجماع کے ذریعے اس کا حل تلاش کرنا۔
- اجتہاد و اجماع میں اور مسائل بتانے میں خواہش نفس کی پیروی سے پہنچنا۔
- ان امور پر عمل کرنے سے انسان علمی آرائیں غلطی سے بہت حد تک فیکر سکتا ہے۔

عوام کی تعلیم و تربیت ریاست کی ذمہ داری

اس عنوان کے تحت ان احادیث کو ذکر کیا جائے گا جن میں آپ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ آپ ﷺ نے ان کو جن جن امور تعلیم و تربیت کا حکم دیا ان تمام میں یہ خود بدرجہ اتم ماہر تھے۔ ان تمام احادیث کو دیکھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کتنی اہم ہے اور یہ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور خود وزراء، سفر اور گورنرزوں اور دوسرے اہل اقتدار لوگوں کا بھی اہل علم ہونا اور خاص طور پر دینی علوم میں انہیں مہارت خاصہ حاصل ہونا کتنی ضروری ہے۔

کتاب اللہ کی تعلیم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَعَثَ مُعَاذًا، وَأَبَا مُوسَى إِلَيْ الْيَمَنِ وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ». (۲۲)

(رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسی اشعری (رضی اللہ عنہما) کو یمن کی طرف بھیجا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں قرآن پاک کی تعلیم دیں۔)

- ۲۲ - احمد بن حنبل، مسنند احمد (خرج)، رقم: ۱۹۵۳، ابو عبد اللہ الحاکم محمد بن عبد اللہ، المستدرک علی الصحیح

للحاکم، رقم: ۲۰۸۳۔

اور خود یہ قرآن پاک میں کتنے ماہر تھے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے جس کو شیخین اور متعدد حضرات نے روایت کیا اور اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت معاذؓ کا شمار ان حضرات میں کیا ہے جن سے آپ ﷺ نے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا اور وہ حدیث یہ ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "اسْتَغْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ، مِنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ، مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ، وَأُبَيِّ، وَمُعاذِ بْنِ جَبَلٍ" (۲۳)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سن کہ قرآن پاک چار حضرات سے سیکھو، ابن مسعود، اور سالم سے جو کہ مولیٰ بیٹا ابو حذیفہ کے اور ابی بن کعب سے اور معاذ بن جبل سے (شیعیان)۔

سنن کی تعلیم

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَوْصَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنَا إِلَى الْيَمَنِ أَنَا وَمُعاذًا نُعَلَّمُهُمُ السُّنَّةَ. (۲۴)

(حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے جب مجھے اور معاذ کو یمن کی طرف پہنچا تو وصیت فرمائی کہ ہم لوگوں کو سنن کی تعلیم دیں۔)

اور خود حضرت معاذؓ سنن کے اور حلال و حرام کے احکام کے کتنے بڑے عالم تھے اس کا اندازہ ان دو حدیثوں سے جو بھی لگایا جاسکتا ہے۔

ایک تو وہ جس کو اصحابہ اپنے حلیۃ میں نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: "لَوِ اسْتَحْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَأَلَنِي عَنْهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ لَقُلْتُ: سَمِعْتُ نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْعُلَمَاءَ إِذَا حَضَرُوا رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَانُ مُعَاذٌ بْنُ أَيْدِيْهِمْ رَثْوَةً بِحَجَرٍ". (۲۵)

حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ: اگر میں معاذ بن جبل کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرتا اور پھر میر اللہ مجھ سے سوال

- ۲۳۔ محمد بن اساعیل المخاری، الجامع الصحيح، رقم: ۳۸۰۶؛ ابو الحسن مسلم بن الحجاج الشیری، صحیح مسلم، رقم:

- ۲۴۔ محمد بن عییٰ الترمذی، سنن الترمذی، رقم: ۳۸۱۰؛ ۲۳۶۳

- ۲۵۔ محمد بن ہارون الرویانی، مستند الرویانی، رقم: ۲۹۹

- ۲۶۔ احمد بن عبد اللہ الاصحابی، حلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۲۸

کرتا کہ تجوہ کو کس چیز نے ایسا کرنے پر ابھار تو میں عرض کروں گا کہ میں نے آپ کے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ
علماء جب قیامت کے دن آئیں گے تو معاذ ان سب سے ایک قدم آگے ہوں اور ایک پتھر پر (بلند) ہوں گے۔^(۲۲)

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت معاذ صرف علوم دین کے اندر ماهر نہ تھے بلکہ علوم سیاست اور
انتظامات ریاست و خلافت سے بھی اس قدر واقف تھے کہ حضرت عمرؓ ان کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کی خواہش کا اظہار
فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا اس اثر سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمرؓ کی نظر میں حضرت معاذؓ کا مقام و مرتبہ کتنا
بلند تھا۔

حضرت معاذؓ ﷺ کے علوم حلال و حرام میں خاص طور پر ماهر ہونے کی دلیل وہ حدیث جس کو صاحب "حلیۃ" نے
اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْلَمُ أُمَّتِي
بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ".^(۲۳)

(حضرت انس بن مالکؓ سے مردی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں
حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔)

حضرت معاذؓ نے آپ ﷺ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو بھی بڑے احسان انداز میں پورا کیا اور آگے لوگوں کو بھی
علم سیکھنے کی

ترغیب دیا کرتے تھے جیسے کہ ابو نعیمؓ نے ہی روایت کیا ہے:

عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ؛ فَإِنَّ تَعْلِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى حَشْيَهُ، وَطَلَبَهُ عِبَادَهُ، وَمُدَاكِرَتَهُ تَسْبِيحُ، وَالْبُحْثُ عَنْهُ جِهَادُ، وَتَعْلِيمَهُ لَيْلٌ لَا يَعْلَمُ صَدَقَهُ،
وَبَدْلٌ لِأَهْلِهِ قُرْبَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَمَنَازِلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالْأُنْسُ فِي الْوَحْشَةِ، وَالصَّاحِبُ
فِي الْعُرْبَةِ، وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ، وَالسَّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَالدِّينُ
عِنْدَ الْأَجْلَاءِ، يَرْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَفْوَامًا، وَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادِهِ وَأَئِمَّهُ، تُقْبَسُ آثَارُهُمْ، وَيُقْتَدَى
بِفِعَالِهِمْ، وَيُتَتَّهَى إِلَى رَأْيِهِمْ، تَرَغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خَلَّتِهِمْ، وَبِأَجْيَحَتِهَا تَمَسَّحُهُمْ، يَسْتَغْفِرُ كُلُّ
رَطْبٍ وَيَابِسٍ، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ وَهَوَامُهُ، وَسَبَاعُ الطَّيْرِ وَأَنْعَامُهُ، لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ

-۲۲۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذؓ کو تمام علماء پر بلند کر کے شرف بخشیں گے۔ واللہ اعلم۔

-۲۲۔ احمد بن عبد اللہ الاصبهانی، حلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۲۸۔

مِنَ الْجُهْلِ، وَمَصْبَاحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلُمِ، يَيْلَغُ بِالْعِلْمِ مَتَازِلُ الْأَخْيَارِ، وَالدَّرَجَةُ الْعُلْيَا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ。وَالنَّفَّارُ فِيهِ يَعْدُلُ بِالصَّيَامِ، وَمُدَارَسَتُهُ بِالْقِيَامِ، يَهُ تُوَصَّلُ الْأَرْحَامُ، وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ
الْحَرَامِ، إِمَامُ الْعَمَالِ، وَالْعَمَلُ تَابِعٌ، يُلْهُمُ السُّعَادَاءَ، وَجُنْحُرُهُ لَا شَقِيقَاءَ。)۱۸)

(رجاء بن حمزة سے مردی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا: علم سیکھو کیوں کہ اللہ کے لیے علم سیکھنا اللہ سے ڈرنا ہے۔ علم کو تلاش کرنا عبادت ہے اور اس کا آپس میں مذکور کرنا تسبیح ہے اور (سبھننے کے لیے) اس میں بحث کرنا جادہ ہے اور نہ جانے والے کو سکھانا صدقہ ہے۔ اور اہل علم پر علم کا خرچ کرنا تقرب کا ذریعہ ہے کیوں کہ علم کے ذریعے سے حلال و حرام معلوم ہوتا ہے اور علم جنت والوں کے لیے (جنت کے راستے کا) بینار ہے اور وہشت میں انس کا ذریعہ ہے اور سفر میں ساتھی، تہائی میں بات کرنے والا، نفع و خوشی کے نقصان اور غم کے کاموں کو بتانے والا، دشمنوں کے خلاف ہتھیار اور دوستوں کے نزدیک انسان کی زینت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کا بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں اور ان کو خیر کے کاموں میں امام بناتے ہیں۔ ان کے طریقے کو لوگ اختیار کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں ان کی اتباع کرتے ہیں اور ان پر اپنے اور فیصلے پر سب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فرشتے ان کی دوستی اور ان کے ساتھ رہنے کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے پروں کو (برکت حاصل کرنے کے لیے) ان پر ملتے ہیں اور ہر طرح کی مغلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور دوسرے جانور اور خشکی کے درندے اور جانور بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیوں کہ علم دلوں سے جہالت کو نکال کر زندگی بخشنا ہے اور اندھیرے میں نگاہ کو بصیرت عطا کرتا ہے۔

انسان علم کے ذریعے بہترین لوگوں کے مرتبے کو اور دنیا و آخرت کے بلند درجوب کا پالیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے سے روزہ رکھنے اور اسے پڑھنے پڑھانے سے راتوں کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان صلہ رحمی کرتا ہے اور حلال و حرام کا فرق جانتا ہے، علم عمل کا امام ہے، عمل اس کے تابع ہے خوش قسمت لوگوں کے دلوں میں علم کا الہام ہوتا ہے اور بد قسمت لوگ علم سے محروم رہتے ہیں۔)

حضرت معاذ بن جبل کی طرف روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کا گورنرنا کر بھیجا تو ان کی روانگی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ لوگوں کو قرآن و سنت اور فتنہ کی تعلیم دینا تھا و سرے لنفوں میں ان کو وزیر تعلیم بنانے کا بھیجا تھا۔ ابن عساکر نے روایت ذکر کی ہے:

عن مجاهد أن رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) خلف معاذ بن جبل بمكة حين وجههم إلى حنين

یفقه أهل مكة ویقرئهم القرآن۔)۱۹)

- ۲۸ - احمد بن عبد اللہ الاصلہ بنیانی، حلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۳۸؛ ابن عبد البر یوسف بن عبد اللہ، جامع بیان العلم وفضلہ لابن

عبد البر، باب جامع فی فضل العلم (سعودیہ: دار ابن الجوزی، ۱۹۹۳ء)، رقم: ۲۶۸۔

- ۲۹ - ابن عساکر علی بن الحسین، تاریخ دمشق لابن عساکر، ۵۸: ۳۰۷۔

(حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو مکہ کا گورنر بنیاء جس وقت آپ ﷺ نے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کو حین کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو (رواٹی کے وقت) حکم دیا کہ وہ اہل مکہ کو فقہ کی تعلیم دیں اور ان کو قرآن پاک پڑھائیں۔)

اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ گورنر کی تقریری کا سب سے بڑا مقصد تعلیم و تعلم تھا اور یہ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔

رعایا کی اخلاقی تربیت

ابن عساکر نے ہی حضرت معاذؓ کے ترجمہ میں روایت ذکر کی ہے:

عن عبید بن صخر بن لوزان الأنصاري السلمي وكان فيمن بعثه النبي (صلى الله عليه وسلم) مع عمال اليمن فقال فرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمال اليمن في سنة عشر بعد ما حج حجة التبام بعث معاذ بن جبل معلمًا لأهل البلدين اليمن وحضرموت وقال يا معاذ إذا قدمت عليهم فأقم فيهم كتاب الله وأحسن أدبهم وأقرنهم القرآن يحملهم القرآن على الحق وعلى الأخلاق الجميلة۔^(۲۰)

(عبید بن صخر بن لوزان سے مروی ہے اور یہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کو آپ ﷺ نے عمال کی مدد کے لیے ان کے ساتھ روانہ فرمایا تھا یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں جیتہ الوداع کے بعد یمن کے گورنر کی تشکیل کی تو معاذؓ بن جبل کو یمن اور حضرموت دونوں شہروں کے لیے معلم بنائیا اور فرمایا اے معاذ! جب تو ان کے پاس جاؤ تو ان میں کتاب اللہ کے احکامات کو نافذ کرو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ اور ان کو قرآن کی تعلیم دو کیوں کہ قرآن ان کو حق کے کاموں پر اچھے اخلاق (اختیار کرنے) پر ابھارے گا۔)

یہاں ان چند احادیث کو ذکر کیا ہے جن کے اندر آپ ﷺ نے حضرت معاذؓ کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں صحیحت فرمائیں۔

نمبر ۱۶: اہل اقتدار حضرات کا آپس میں اتحاد اور ایک دوسرے سے رابطہ میں رہنا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُعاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «يَسِّرْ أَوْ لَا تُعَسِّرْ، وَبَشِّرْ أَوْ لَا تُنَفِّرْ، وَنَطِّوْعًا وَلَا تَخْتَلِفَا»۔^(۲۱)

- ۲۰ - ابن عساکر علی بن الحسین، تاریخ دمشق لابن عساکر، ۵۸: ۳۰۷۔

- ۲۱ - محمد بن اسماعیل البخاری، الجامع الصحیح، رقم: ۳۰۳۸؛ ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشیری، صحیح مسلم، باب فی الامر بالیسیر و ترك التنفیر، رقم: ۴۳۳۔

(آپ ﷺ نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیؓ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو فرمایا: لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بخوبی کرنا، اور لوگوں کو خوش خبریاں دینا ان میں نفرت نہ پھیلانا اور آپس میں اتفاق سے رہنا اختلاف نہ کرتے پھرنا۔)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل اقتدار حضرات کا آپس میں اتحاد و اتفاق کتنا ضروری ہے۔ اور دوسری وہ حدیث جس کو ابو عوانہ نے اپنی مستخرج میں روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حکومت کا آپس میں ایک دوسرے سے امور حکومت کے متعلق مشورہ کے لیے اور اس کے علاوہ آپس کے اتحاد و اتفاق اور محبت کے لیے رابطہ میں رہنا چاہیے۔

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: "بَعَثَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَادًا إِلَى الْيَمَنِ نَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَمْرَنَا أَنْ يَنْزِلَ أَحَدُنَا قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ، وَأَمْرَنَا بِأَنْ يَأْتِيَ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ." (۲۱)

حضرت ابو موسیؓ اشعریؓ سے مردی ہے کہ آپ ﷺ نے مجھے اور حضرت معاذؓ کو یمن کی طرف بھیجا کہ ہم لوگوں کا اسلام کی طرف بلاعین۔ اور ہمیں حکم دیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے صاحب کے قریب ہی مکرے اور ہمیں (خاص طور) حکم دیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے متار ہے اور رابطہ میں رہے۔

نمبر ۱۷: لوگوں کے مزاج کی رعایت رکھی جائے، سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہاکا جائے:

عن عبید بن صخر بن لوذان الأنصاري السلمي قال فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) لمعاذ حين بعثه معلما إلى اليمن وأنزل الناس منازلهم فإنهم لا يسترون إلا في الحدود لا في الخير ولا في الشر على قدر ما هم عليه من ذلك. (۲۲)

(عبید بن صخر بن لوذان الانصاري السلميؓ سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ: آپ ﷺ نے جس وقت حضرت معاذؓ کو یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا تو فرمایا: لوگوں کو ان کے مرتبہ پر اتا رو (یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج و مرتبہ کے حساب سے پیش آؤ) کیوں کہ وہ (مقام و مرتبہ اور مزاج و عادات کے اعتبار سے) برابر نہیں ہیں مگر حدود کے معاملے میں سارے برابر ہیں۔ لوگ اپنی اپنی (طبعتوں کے اعتبار سے) نہ خیر کے کاموں میں برابر ہیں اور نہ شر کے معاملات میں (اہذا لوگوں کے اعتبار سے ان کے ساتھ بر تاؤ کرو)۔ واللہ اعلم بالصواب!

نمبر ۱۸: فرائض کی ادائیگی میں عوام کی رعایت کرنا

قال النبي (صلى الله عليه وسلم) لمعاذ حين بعثه معلما إلى اليمن ترفقوا بالناس في كل ما عليهم

- ۲۵۲۲: ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق، مستخرج ابی عوانہ، رقم: ۲۵۲۲۔

- ۲۱۰: ابن عساکر علی بن الحسین، تاریخ دمشق لابن عساکر، ۵۸: ۲۱۰۔

وَلَا تفْتَنُوهُمْ وَانظُرُوهُمْ فِي وَقْتٍ كُلِّ صَلَةٍ فَإِنَّهُ كَانَ أَرْفَقُهُمْ فَصَلَوْا بِهِمْ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ۔^(۷۳)

(رسول اللہ ﷺ نے جس وقت حضرت معاذؓ کو یمن کی طرف معلم بن اکبر بھیجا تو فرمایا: لوگوں کے ساتھ ان تمام حقوق میں (خواہ وہ عبادت سے متعلق ہوں یا معاملات کے) (زری والا معاملہ کرنا اور ان) پر سختی کر کے ان (پر سختی کر کے ان) کو آزمائش اور تنگی میں بٹلانہ کرنا (خاص طور پر) نمازوں کے اوقات میں ان کی سہولت کو (حتی الامکان) مد نظر رکھو، کیوں کہ یہ ان کے لیے (فرائض کی ادائیگی میں) زیادہ آسانی کا باعث ہو گا چنانچہ ان کی سہولت کے اعتبار سے نمازوں کے اوقات کے اول اور درمیان اور آخر میں ان کو نماز پڑھاؤ۔)

نمبر ۱۹: متعلقاتِ نصیحت کرنا اور اللہ کے معاملہ میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا

قال عبید بن صخر امر النبي (صلی الله علیہ وسلم) عمالہ بالیمن جمیعاً فقال تعاهدوا الناس بالذكر وأتبعوا الموعظة بالموعظة فإنه أقوى للعاملين على العمل بما يحب الله ولا تخافوا في الله لومة لائم واتقوا الله الذي إليه ترجعون۔^(۷۴)

(حضرت عبیدہ بن حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے یمن کے تمام عمال کو حکم دیا کہ لوگوں کو نصیحت قبول کرنے پر تیار کرتے رہو لہذا پے در پے عوام میں وعظ و نصیحت کرتے رہو، کیوں کہ یہ وعظ و نصیحت کرنا لوگوں کو ان کاموں کے کرنے پر ابھارے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور اس اللہ سے ڈنابس کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔)

حضرت معاذؓ نے رسول اللہ ﷺ کی اس نصیحت پر کیسے عمل کیا تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاذؓ کی باقاعدہ وعظ و نصیحت کی مجلس ہوا کرتی تھی جس میں آپ ﷺ لوگوں کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ بطور مثال کے حضرت معاذؓ کا ایک مختصر وعظ ذکر کیا جاتا ہے۔

عن عون بن معمر قال كان معاذ بن جبل له مجلس يأتيه فيه ناس من أصحابه فيقول يا أئها الرجل وكلكم رجل اتقوا الله وسابقوا الناس إلى الله ويا دروا أنفسكم إلى الله تعالى الموت وليس لكم بيوتكم ولا يضركم أن لا يعرفكم أحد۔^(۷۵)

۷۳ - ابن عساکر علی بن الحسین، تاریخ دمشق لابن عساکر، ۵۸: ۳۱۱۔

۷۴ - ابن عساکر علی بن الحسین، تاریخ دمشق لابن عساکر، ۵۸: ۳۱۱۔

۷۵ - ابن عساکر علی بن الحسین، تاریخ دمشق لابن عساکر، ۵۸: ۳۳۸۔

(حضرت عون بن معمر سے مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مجلس ہوا کرتی تھی جس کے اندر لوگ شرکت کرتے تھے (چنانچہ ایک دفعہ آپ نے وعظ فرمایا) اور لوگوں کو کہا اے مرد! اور تم سارے کے سارے مرد ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ (کی رضا کے کاموں میں) لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو اور اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے میں جلدی کرو اور تیار کرو یعنی موت کی تیاری کرو۔ اور تمہارے گھر تمہارے لیے کشادہ ہونے چاہئیں (یعنی اپنے گھر کو زیادہ وقت دیا کرو) اور یہ بات تمہیں نقصان نہیں دی گی کہ تمہیں کوئی نہیں جانتا۔)

نمبر ۲۰: وعظ و نصیحت کرنے کا انداز

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ رَكِبَ مُعَاذً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِلَى جَانِبِهِ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، أُوصِيكَ وَصِيَّةً أَلَّا خَسِيقَ، أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ». (۷۷)

(حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہی کہیجئے کا ارادہ فرمایا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ (سواری) پر سوار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور وصیتیں فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ اے معاذ! میں تجھے وصیت کرتا ہوں گے جہاں کی طرح وصیت کرنا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔

نمبر ۲۱: ریاست کی رٹ کو چلتیج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنا

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثْتُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ هَذَا: «لَعْنَكَ أَنْ تَمْرِنَ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، وَقَدْ بَعْثَنْتُكَ إِلَى قَوْمٍ رُّفِيقَةً قُلُوبُهُمْ، يُفَاتِلُونَ عَلَى الْحُقُوقِ، فَقَاتِلْ إِمَّنْ أَطْاعَكَ مِنْهُمْ مَنْ عَصَاكَ، ثُمَّ يَفْرُشُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تُبَادِرَ الْمُؤْمِنَةُ زَوْجَهَا، وَالْوَلَدُ وَالِدَهُ، وَالْأَخُوَّهُ أَخَاهُ، فَانَّزِلْ بَيْنَ الْحَيْنَ السَّكُونَ وَالسَّكَامِسِكِ». (۷۸)

(حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہیں کی طرف بھیجا تو فرمایا: شاید کہ تمہارا گزر میری قبر پر ہو میں نے تمہیں ایسی قوم کی طرف بھیجا ہے جن کے دل انتہائی نرم ہیں وہ حق کی خاطر لڑتے ہیں چنانچہ جو

- ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الا صبهانی، حلیۃ الاولیاء، ۲۲۱: ۱۔

- ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المعجم الكبير للطبرانی، رقم: ۱۷۱؛ ابو بکر احمد بن الحسین البیهقی، السنن الکبریٰ للبیهقی، رقم: ۱۷۹۵۔

اطاعت گزار ہوں ان کے ساتھ لے کر تم ان لوگوں سے ققال کرو جو تمہاری نافرمانی کریں یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف اس حال میں لوٹیں کہ عورت اپنے شوہر سے اور بیٹا اپنے باپ سے اور بھائی اپنے بھائی سے جلدی اور سبقت کرے۔ (اور تم جب یمن پہنچو تو) دو قصبوں، سکون اور سکاسک کے درمیان اترو۔

یہاں تک ان نصائح کا بیان تھا جن کا تعلق زیادہ تر احکامات اور انتظامی امور سے تھا اب یہاں سے ان نصائح کو بیان کیا جائے گا جو زیادہ تر رفاقت و آداب زندگی سے متعلق ہیں۔

نمبر ۱: کلمۃ طیبۃ کی فضیلت

عن عبید بن صخر بن لوزان الأنصاري السلمي أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي (صلی الله علیہ وسلم) إلى اليمين وقال يا معاذ إنك تقدم على أهل كتاب وإنهم سائلوك عن مفاتيح الجنة فأخبرهم أن مفاتيح الجنة لا إله إلا الله وأنها تفرق كل شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل لا تحجب دونه من جاء بها يوم القيمة مخلصاً رجحت بكل ذنب.^(۲۹)

عبدی بن حضر بن لوزان انصاری ﷺ سے مردی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ ﷺ نے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا: اے معاذ ﷺ تو (یمن) میں اہل کتاب کے پاس بھی آئے گا اور وہ تھسے جنت کی چاہیوں کے متعلق سوال کریں گے تو ان کو خبر دینا کہ جنت کی چاہیاں، لا إله إلا الله ہے یہ کلمہ ہر چیز کو چاہتا ہو اللہ تعالیٰ تک ایسے پہنچتا ہے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ جو شخص بھی اس کلمہ کو اخلاص سے بھر پورے کر آئے گا تو یہ کلمہ ہر گناہ پر بھاری ہو گا۔

کلمہ طیبہ کا تمام گناہوں پر بھاری ہو جانا، حدیث البطاقۃ^(۸۰) سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

۷۹۔ ابن عساکر علی بن الحسین، تاریخ دمشق لابن عساکر، ۵۸۰-۶۲۰

۸۰۔ حدیث البطاقۃ سے مراد وہ حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک پرچی پر لکھا ہوا کلمہ طیبہ ایک شخص کے سارے گناہوں سے بھاری ہو جائے گا، حدیث کا متن اور ترجمہ حسب ذیل ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَسْرُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سِجْلًا كُلُّ سِجْلٍ مِثْلُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَّمَكَ كَتَبِيَ الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبَّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبَّ، فَيَقُولُ: بَلٌ إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمٌ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَافَةٍ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْسِرْ وَرِنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبَّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجَلَاتِ، فَقَالَ: إِنَّ لَا

نمبر ۲: غلطی کی تلافی کا طریقہ

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: "أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِّرِّكُ بِهِ شَيْئًا، وَاعْمَلْ سَيِّئَةً كَيْفَ تَرَاهُ، وَادْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ، وَشَجَرٍ وَإِنْ عَمِلْتَ سَيِّئَةً فِي سِرٍّ فَاتَّبِعْهَا حَسَنَةً، فِي سِرٍّ وَإِنْ عَمِلْتَ سَيِّئَةً عَلَانِيَةً فَاتَّبِعْهَا حَسَنَةً عَلَانِيَةً۔" (۸۱)

(حضرت معاذ بن جبل رض سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف سمجھا تو فرمایا: اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراو، اور اللہ کے لیے ایسے عمل کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اللہ کا ذکر ہر درخت اور پتھر کے پاس کرو، اور اگر تم پو شیدہ کوئی برائی کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد پھپک سے نیکی کرو اور اگر تم علانیہ کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد نیکی بھی علانیہ کرو۔)

نمبر ۳: تھوڑے عمل کے کافی ہو جانے کا نسخہ

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: "أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِلُكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ۔" (۸۲)

(حضرت معاذ بن جبل رض سے مروی ہے کہ انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن

تُنْظَلِمُ "، قَالَ: "فَتَوَصَّعُ السِّجَلَاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةِ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجَلَاتُ وَقُتِلَتِ الْبِطَاقَةُ، فَلَا يَنْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ سَيِّءَ" (جامع ترمذی، حدیث نمبر، ۲۶۳۹) (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرمائے کرتا کہ تمام دنیا کے سامنے لا ہیں گے اور اس کے سامنے ننانوے دفتر اعمال کے کھولیں گے ہر دفتر مبتہ نظر تک پھیلا ہوا ہو گا۔ پھر اللہ اس سے پوچھیں گے کہ ان اعمال ناموں میں تو کس چیز کا انکار کرتا ہے کیا میرے محافظ فرشتوں نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ انہیں پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے وہ عرض کرے گا نہیں۔ ارشاد ہو گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہو گا پھر ایک کاغذ کا لکڑا انکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہو اس کا جاؤ اس کا وزن کروادوہ عرض کرے گا اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ کیا کام دے گا ارشاد ہو گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہو گا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پڑیے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ پر زہ تو دفتروں والا پڑا اڑنے لگے گا اس پر زہ کے وزن کے مقابلے میں پس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔)

ابو بکر احمد بن الحسین لیہی السلام، شعب الایمان، فضل فی ادامۃ ذکر اللہ (ریاض: مکتبۃ الرشد للنشر و التوزیع، ۲۰۰۳ء)، رقم: ۵۲۳۔

ابو عبد اللہ الحاکم محمد بن عبد اللہ، المستدرک علی الصحيحین للحاکم، رقم: ۷۸۳۔

کی طرف بھیجا۔ یا رسول اللہ ﷺ مجھے وصیت فرمادیں تو آپ ﷺ نے ان کو فرمایا پنادیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرلو تو تمہارے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔)

نمبر ۳: زبان کی سچائی اور عہد کی پاسداری

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْدَى يَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى مِيلًا ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعاذُ أُوصِيكَ بِتَقْوِيَ اللَّهَ، وَصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَرَفَاءِ الْعَمِيدِ». (٨٣)

(حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے میرا تھوڑا اور ایک میل تک میرے ساتھ چلے پھر فرمانے لگے اے معاذ! میں تھے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی اور سچی بات کرنے کی اور عبد کو بورا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔)

نمبر ۳: بیواؤں اور فقراء کی حاجت برآری میں جلدی کرنا

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ رَكِبَ مُعَاذًَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِلَى جَانِبِهِ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ، أُوصِيكَ وَصِيَّةً الْأَخِ الشَّقِيقِ أَسْرِعْ فِي حَوَائِجِ الْأَرَامِ وَالضُّعْفَاءِ، وَجَالِسٍ (٨٣) الْفُقَرَاءِ وَالسَّاكِنِينَ.

حضرت ابن عمر رضي الله عنه سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضي الله عنه کو یہنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت معاذ رضي الله عنه (سواری پر) سوار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیتیں فرماتے ہوئے پیدل چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معاذ! میں تمہیں سکے بھائی کی وصیت کرنے کی طرح وصیت کرتا ہوں کہ بیواؤں اور کمزور لوگوں کی مدد کرنے میں جلدی کرنا اور غریبوں اور مساکین کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کھو۔

نمبر ۵: امانت کی ادائیگی اور خپاٹ سے بچاؤ

^{٨٣}- ابو بکر احمد بن الحسین اليهقی، الزهد الكبير للبيهقي، باب الورع والتقوی (بیروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ١٩٩٦)، رقم: ٩٥٢.

-٨٣- ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني، حلية الاولى، ٢٣١: ١-

-٨٥- ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي، الزهد الكبير للبيهقي، باب الورع والتقوى، رقم: ٩٥٦؛ ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصفهاني، حادة الاماناء، ٢٣١.

(حضرت معاذ بن جبل ﷺ سے مردی ہے کہ آپ ﷺ نے ان کو فرمایا اے معاذ! جاؤ اور اپنی سواری تیار کرو اور پھر میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں یعنی کبھیجوں گا۔۔۔۔۔ پھر (و صیتیں کرتے ہوئے فرمایا) اے معاذ! میں تم کو امانت کوادا کرنے اور خیانت کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔)

نمبر ۲: تقویٰ کامعیار:

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَصِّيهِ مُعَاذَ رَاكِبٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَأْتِقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، لَعَلَّكَ أَنْ تُمْرِكَ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي فِي كَبَّى مُعَاذَ خَشَعًا لِفَرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَفَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْوِي الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: «إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هُؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَهْبَمَ أُوْلَى النَّاسِ بِي، وَإِنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَقْوِنُونَ، مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا، اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ فَسَادَ مَا أَصْلَحْتَ، وَإِنِّي لَيَكُفُّوْنَ أَمْتَيْتَ عَنْ دِينِهَا كَمَا يَمْكُّمُ الْإِنْاءِ فِي الْبَطْحَاءِ»۔^(۸۱)

(حضرت معاذ بن جبلؓ سے مردی ہے کہ آپ ﷺ نے جب ان کوین کی طرف بھیجا تو آپ ﷺ ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلے۔ آپ ﷺ ان کو صیتیں فرماتے ہے تھے اس حال میں کہ معاذ اپنی سواری پر سوار تھے اور آپ ﷺ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ جب صحیت کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے معاذ! ممکن ہے کہ اس سال کے بعد تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو شاید کہ تمہارا میری مسجد اور میری قبر پر گزر ہو۔ پس حضرت معاذؓ یہ سن کر آپ ﷺ کے فراق اور جدا بھیگ کے خوف سے رونے لگے (ان کی یہ حالت دیکھ کر) آپ ﷺ نے اپنا رخ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور پھر فرمایا کہ: یہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے زیادہ قریب اور مجھے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ لوگوں میں میرے زیادہ قریب متقدی لوگ ہیں جو بھی اور جہاں بھی ہو۔ اے میرے اللہ! میں ان کے لیے اس چیز کے فساد کو حلال کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس کو آپ نے درست کر دیا۔ اور اللہ کی قسم میری امت دین سے ایسے نکلے گی (اور اکثر روایات میں ہے کہ نکالی جائے گی) جیسے کہ پانی والے برتن کو وادی کے اندر انڈیل کر خالی کر دیا جاتا ہے۔)

نمبر ۳: مسلمان کو گالی دینے سے اور امام عادل کی نافرمانی سے بچنا

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّنِي مِيلًا ثُمَّ

- ۸۲ محمد بن حبان، صحيح ابن حبان محرجا، رقم: ۷۲۷؛ ابو بکر بن ابی عاصم، السنۃ لابن ابی عاصم

(بیروت: المکتبۃ الاسلامی، ۱۴۰۰ھ) رقم: ۲۱۲۔

فَالْ: «يَا مُعَاذُ! أَنْهَاكَ أَنْ تَسْتُمْ مُسْلِمًا، أَوْ تَعْصِي إِمَامًا عَادِلًا». (۸۷)

(حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے میرا باتھ کپڑا کچھ مسافت میرے ساتھ چلے اور پھر فرمایا: اے معاذ! میں تمہیں کسی مسلمان کو غالی دیئے اور امام عادل کی نافرمانی کرنے سے منع کرتا ہوں۔)

نمبر ۸: بغیر تحقیق کے کسی کی تصدیق و تکذیب سے اور زمین میں فساد سے گریز کرنا

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ انْطَلِقْ فَارْحَلْ رَاجِلَتَكَ، ثُمَّ اتْبِعْنِي أَبْعَثْكَ إِلَى الْيَمَنِ» فَانْطَلَقْ فَارْحَلْ رَاجِلَتِي ثُمَّ جِئْتُ فَوَقَّتْ بِيَابِ الْمُسْجِدِ حَتَّى أَذَنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْدَدْ بِيَدِي ثُمَّ مَضَى مَعِي فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، أَنْهَاكَ أَنْ تُكَذِّبَ صَادِقًا، أَوْ تُصْدِقَ كَاذِبًا، وَأَنْ تُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ». (۸۸)

(حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے ان کو فرمایا: اے معاذ! جاؤ اور اپنی سواری تیار کرو پھر میرے پاس آؤ میں تجھے یہیں کھیجوں گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں چلا اور اپنی سواری تیار کی اور میں آگیا اور مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے مجھے (اندر آنے کی) اجازت دی۔ (پھر آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ کھڑے ہوئے) اور میرا باتھ کپڑا اور پھر میرے ساتھ چلے اور فرمایا کہ اے معاذ رضي الله عنه میں تمہیں منع کرتا ہوں اس بات سے کہ تو کسی سچے آدمی کی تکذیب کرے یا کسی جھوٹے کی تصدیق کرے اور (میں تمہیں منع کرتا ہوں) کہ تم زمین میں فساد کرو۔)

نمبر ۸: سلام کرنا، فقراء کو کھانا کھلانا اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى قُومٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: «أَفْشِ السَّلَامَ، وَابْدُلِ الطَّعَامَ، وَاسْتَحْيِيَاءَ رُجُلٍ ذِي هَيَّةٍ مِنْ أَهْلِكَ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ وَلْتُحسِنْ خُلُقَكَ مَا اسْتَطَعْتَ». (۸۹)

۸۷ - ابوکراہم بن الحسین البغیق، الزهد الكبير للبغیقی، باب الورع والتقوی، رقم: ۹۵۶؛ ابوکبر محمد بن جعفر الخرائلی، مساوى الاخلاق للخرائلی، باب ما يكره من سب الناس وتناول اعراضهم (جده: مكتبة السوادی للتوزیع، ۱۹۹۳ء)، رقم: ۲۸۔

۸۸ - ابونیح احمد بن عبد الله الاصبهانی، حلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۲۰؛ ابوکراہم بن الحسین البغیق، الزهد الكبير للبغیقی، بباب الورع والتقوی، رقم: ۹۵۶۔

۸۹ - ابوکراہم بن عمر البغیق، مسنڈ البزار، رقم: ۲۶۲۲؛ ابوعبد اللہ محمد بن نصر المروزی، تعظیم قدر الصلاۃ لمحمد بن نصر المروزی: جماع تفسیر النصیحة، (مدینہ منورہ: مکتبۃ الدار، ۱۴۰۶ھ)، رقم: ۸۲۵۔

(حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسَلَمَ نے ان کو ایک قوم کی طرف بھیجا تو حضرت معاذ رضي الله عنه نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسَلَمَ نے فرمایا؛ سلام کرنے کو عام کرو اور (لوگوں کو) کھانا کھلاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسے کہ تم اپنے اہل میں سے سب سے زیادہ بار عرب انسان سے حیا کرتے ہو۔ اور جب کوئی بر اکام کر بیٹھو تو (فوراً بعد) نیکی بھی کر لو اور جتنا بس چلے اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔)

نمبر-۹۔ اپنے بڑوں کی جدا یگی سے رونا:

عِنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ يُوصِيهِ، وَمَعَهُ
رَأِكُوبُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «يَا مُعاذُ إِنَّكَ عَسَى
أَلَا تَلْقَنِي بَعْدَ عَامِي أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْعِدِي وَقَبْرِي»، فَبَكَى مُعاذٌ حَشِيعًا لِفَرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (۶۰)

(حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسَلَمَ نے جب ان کو یہن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسَلَمَ ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسَلَمَ ان کو وصیتیں فرماتے ہے تھے اس حال میں کہ معاذ اپنی سواری پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسَلَمَ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ جب نصیحتیں کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا : اے معاذ رضي الله عنه! ممکن ہے کہ اس سال کے بعد تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو شاید کہ تمہارا میری مسجد اور میری قبر پر گزر ہو۔ پس حضرت معاذ رضي الله عنه یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسَلَمَ کے فرق اور جدا یگی کے خوف سے رونے لگے۔)

نمبر-۱۰۔ دین کے کام سے بہرہ کرتے وقت رونے سے منع کرنا

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ وَمَعَادُ رَأِكُوبٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَمْشِي إِلَى جَنْبِ رَاحِلَتِهِ فَقَالَ: «يَا مُعاذُ، إِنَّكَ عَسَى
أَنْ لَا تَلْقَنِي بَعْدَ عَامِي هَذَا فَتَمَرَّ بِقَبْرِي وَمَسْعِدِي»، قَالَ: فَبَكَى مُعاذٌ حَشِيعًا لِفَرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تَبَكِ يَا مُعاذُ، فَإِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ» (۶۱)

(حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسَلَمَ نے جب ان کو یہن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسَلَمَ ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسَلَمَ ان کو وصیتیں فرماتے ہے تھے اس حال میں کہ معاذ اپنی سواری پر سوار تھے اور

- ۹۰۔ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبهانی، معرفة الصحابة لابن نعيم، رقم: ۵۹۵۷؛ ابو بکر بن ابی عاصم، الاحد والمثانی

لابن ابی عاصم، رقم: ۱۸۳۷۔

- ۹۱۔ ابو بکر احمد بن عمر والبغی، مسنـد البزار، رقم: ۲۶۲۲؛ ابو عبد اللہ محمد بن نصر المروزی، تعظیم قدر الصلاة لمحمد بن

نصر المروزی: جمـاع تفسیر النـصیحـة، رقم: ۸۲۵۔

آپ ﷺ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا؛ اے معاذ! ممکن ہے اس سال کے بعد تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو بلکہ تمہارا گزر میری قبر اور میری مسجد پر ہو (یہ سن کر) حضرت معاذؓ آپ ﷺ سے جدا یگی کے خوف سے رونے لگ گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اے معاذ نہ روکیوں کہ (خیر کے کام کے وقت لکھتے ہوئے) (روناشیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔)

نمبر ۱۱: چند مختلف نصائح

(عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْدَى يَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّى مِيلًا ثُمَّ قَالَ: يَا مُعاذُ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَرَحْمَةِ الْيَسِيرِ، وَحِفْظِ الْجُوَارِ، وَكَظِيمِ الْغَيْطِ، وَلِينِ الْكَلَامِ، وَبَذْلِ السَّلَامِ، وَلُزُومِ الْإِمَامِ، وَالتَّقْفِي فِي الْقُرْآنِ، وَحُبُّ الْآخِرَةِ، وَالجُنَاحُ مِنَ الْجُنَاحَاتِ، وَقِصْرِ الْأَمْلِ، وَحُسْنِ الْعَمَلِ).^(۹۲)

(حضرت معاذ بن جبل ﷺ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ مسافت میرے ساتھ چلے پھر فرمایا؛ اے معاذ میں تجویہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی اور شیعیم پر حرم کرنے کی اور پڑوی (کے حقوق) کی حفاظت کرنے کی اور غصے کو پی جانے کی اور کلام میں نرمی اختیار کرنے کی اور سلام کو عام کرنے کی اور امام کو لازم پکڑنے کی اور قرآن پاک میں خور و فکر کرنے کی اور آخرت کی محبت کی اور حساب سے ڈرنے کی اور امیدوں کے منتشر رکھنے کی اور عمل کو خوبصورت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔

درج بالا احادیث نصائح و احکام پر نظر ڈالیں تو اس سے ایک تو حضرت معاذؓ کے علمی، عملی، اور فقہی مقام کا اندازہ ہوتا ہے اور دوسرا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی ملک، علاقے یا کسی بھی محکمہ میں کسی آدمی کی تقری کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کا تقرر کیا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں مثلاً؛ اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے ان کی تعلیمی و اخلاقی تربیت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، بیت المال یا دوسرے لفظوں میں ایسا مال جس کے ساتھ کسی ریاست یا کسی محکمہ کے تمام افراد کا حق متعلق ہوتا ہے اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا۔ جو فرائض عوام پر عائد ہوتے ہیں ان کو ان سے کیسے وصول کیا جائے گا وغیرہ۔

اس تحریر کا اختتام اس دعا پر کیا جاتا ہے جو آپ ﷺ نے حضرت معاذؓ کو نصائح سے فارغ ہو کر الوداع کرتے ہوئے ارشاد فرمائی جسے ابن حجر نے الاصابة میں عبید بن حrix کے حوالہ سے ذکر کیا ہے:

- احمد بن الحسین البیهقی، الزهد الكبير للبیهقی، رقم: ۹۵۶؛ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبهانی، حلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۳۰۔

عن عبید بن صخر، قال: قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمعاذ لما وَدَّعَهُ: "حفظك الله من بين يديك ومن خلفك، وعن يمينك وعن شمالك، ومن فوقك ومن تحتك، وأدرأ عنك شرور الإنسان والجن".^(۹۳)

عبد بن صخر سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب الوداع کیا تو ان کے لیے یوں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حنفیت فرمائے آپ کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور آپ کے اوپر سے اور آپ کے پیچے سے اور لوٹادے آپ سے جنوں اور انسانوں کے شر کو،



List of Sources in Roman Script

- ❖ Abdullah bin Abd al-Rahman al-Darimi, Sunan al-Darimi, Kitab al-Zakah, Saudi Arabia: Dar al-Maghni lil-Nashr wa al-Tawzi', 2000
- ❖ Abu Abd Allah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Ta'zim Qadr al-Salah li Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Al-Madinah al-Munawwarah: Maktabat al-Dar, 1406 AH.
- ❖ Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Fada'il al-Sahabah. Beirut: Dar al-Risalah, 1983.
- ❖ Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad. Beirut: Dar al-Risalah, 2001.
- ❖ Abu Abdullah Ahmad bin Shu'ayb al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, Halab: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986.
- ❖ Abu al-Abbas Ahmed bin Ali al-Maqrizi, Imta al-Asma' bi Ma li al-Nabi min al-Ahwal wa al-Amwal wa al-Hifdah wa al-Mata'. Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- ❖ Abu al-Fadl Ahmed bin Ali al-'Askalani, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah. Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415.
- ❖ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, Sahih Muslim, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- ❖ Abu al-Qasim al-Tabarani Sulaiman bin Ahmed, al-Mu'jam al-Kabir. Cairo, Dar al-Nashr Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994.
- ❖ Abu Awana Ya'qub bin Ishaq, Mustakhraj Abi Awana, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998.
- ❖ Abu Bakr Ahmad bin Amr al-Bazzar, Musnad al-Bazzar al-Manshur bi Asm al-Bahr al-Dhakhir, Al-Madinah Al-Munawwarah: Maktabah al-ulum wa al-Hikam, 2009.
- ❖ Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, Al-Zuhd al-Kabir li al-Bayhaqi, Beirut: Mu'assasat al-Kutub al-Thaqafiyyah, 1996.
- ❖ Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, Shu'ab al-Iman, Riyadh: Maktabah al-Rushd li-Nashr wa al-Tawzi', 2003.

- ❖ Abu Bakr al-Baihaqi Ahmad bin al-Hussein, *Dalail al-Nubuwwah (Makhraj)*, Dar al-Rayyan lil-Turath: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- ❖ Abu Bakr al-Bayhaqi Ahmad bin al-Husayn, *Al-Sunan Al-Kubra Li'l-Bayhaqi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- ❖ Abu Bakr Ibn Abi 'Asim al-Shibani, *al-Ahad wa al-Mathani li-Ibn Abi 'Asim Riyadh*: Dar al-Rayah, 1991.
- ❖ Abu Bakr ibn Abi 'Asim, *Al-Sunnah li Ibn Abi 'Asim*, Beirut: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1400 AH.
- ❖ Abu Bakr Ibn Abi Shaybah, *Musannaf Ibn Abi Shaybah*, Riyadh: Maktabah Al-Rushd, 1409 AH
- ❖ Abu Bakr Muhammad bin Harun al-Rawiyani, *Musnad al-Rawiyani*, Cairo: Ma'had Qurtubah, 1416.
- ❖ Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far al-Khara'iti, *Masawi' al-Akhlaq li al-Khara'iti*, Jeddah: Maktabat al-Sawadi li al-Tawzi', 1993.
- ❖ Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyah.
- ❖ Abu Eisa Mohammed bin Eisa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*. gypt: Sharikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- ❖ Abu Hatim Mohammed bin Hibban, *Sahih Ibn Hibban*. Beirut: Markaz al-Risalah, 1998.
- ❖ Abu Nu'aim Ahmed bin Abdullah al-Asbahani, *Ma'rifat al-Sahabah li-Abi Nu'aim*. Riyadh: Dar al-Watan lil-Nashr, 1998.
- ❖ Abu Nu'aym Ahmad bin Abdullah al-Asbahani, *Hilyat al-Awliya'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1409 AH.
- ❖ Abu Omar Khalifa bin Khayyat, *Tarikh Khalifa bin Khayyat*. Beirut, Markaz al-Risalah, 1397.
- ❖ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1379 AH.
- ❖ Ahmad bin Yahya al-Baladhuri, *Futuh al-Buldan*, Beirut: Dar al-Maktabah al-Halabiyyah, 1998.
- ❖ Ali bin al-Hussein Ibn Asakir, *Tarikh Dimashq li-Ibn Asakir*, Dar al-Fikr lil-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1995.

- ❖ Hamid bin Ahmad Ibn Zanjawayh, Al-Amwal li-Ibn Zanjawayh, Saudi Arabia: Markaz al-Malik Faisal lil-Buhuth wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 1986.
- ❖ Ibn Abd al-Barr Yusuf bin Abdullah, Jami Bayan al-Ilm wa Fadlihi li-Ibn Abd al-Barr, Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi, 1994.
- ❖ Ibn Abi Usamah Abu Muhammad al-Harith bin Muhammad, Musnad al-Harith, (Madinah: Markaz Khidmat al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyyah, 1992.
- ❖ Ibn al-Athir Abu al-Hasan Ali bin Abi al-Karam al-Jazari, Usd al-Ghabah fi Ma'rifat al-Sahabah. Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- ❖ Ibn al-Bayyin Abu Abdullah Al-Hakim Muhammad bin Abdullah, Al-Mustadrak, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- ❖ Ibn Kathir Ismail bin 'Umar, Al-Bidayah wa al-Nihayah, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- ❖ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- ❖ Ibn Malakan Umar bin Ali, Tuhfat al-Muhtaj ila al-Adillah al-Minhaj, Dar Hira: Al-Makkah al-Mukarramah, 1986.
- ❖ Muhammad bin Hibban bin Ahmad, Al-Seerah al-Nabawiyyah wa Akhbar al-Khulafa' li-Ibn Hibban, Beirut: Al-Kutub al-Thaqafiyah, 1417 AH.
- ❖ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Al-Jami' al-Sahih, Imamah, Cairo: Dar Taq al-Najah, 1422 AH.
- ❖ Nur al-Din Ali bin Abi Bakr al-Haythami, Majma' al-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id, Cairo: Maktabah al-Qudsi.
- ❖ Shams al-Din Abu Abdullah Mohammed bin Ahmed al-Dhahabi, Tadhkirat al-Huffaz. Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- ❖ Sulaiman bin Ahmad al-Tabarani, Musnad al-Shamayin, Beirut: Ma'had al-Risalah, 1984.
- ❖ Sulaiman bin Dawud al-Tayalisi, Musnad Abi Dawud al-Tayalisi, Egypt: Dar al-Hijr, 1999.

